

<http://www.SchoolQuran.com>

Quran Learning For Kids

<http://www.schoolquran.com/Quran-Learning-For-Kids.php>

Quran Learning For Women and Girls

<http://www.schoolquran.com/Quran-Learning-For-Women.php>

Quran Learning for All Family

<http://www.schoolquran.com/Quran-Learning-For-Family.php>

Learn Quran With Tajweed

<http://www.schoolquran.com/Learn-Quran-With-Tajweed.php>

Quran Courses

<http://www.schoolquran.com/Quran-Courses.php>

اصلاح الاخلاق

عارف پاٹھ حضرت اقدس
مولانا شاہ حکیم محمد اخسر کرم حب دامت بخش رحمہم

کتب خانہ ظہری

گلشن اقبال کراچی پاکستان

اصلاح اخلاق

عازمایتی حضرافت دنیا ناشاہ عکیم محمد احمد صادق حبیب بر کام

گلشن اقبال ہرگز پری
۲۶ پوسٹ کوڈ ۵۳۰۰
فرن: ۳۹۹۲۱۷۶

کتبخانہ مظہری



انساب

احقر کی جملہ تصنیفات و تالیفات مرشدنا و مولانا
محی الدین حضرت اقدس شاہ ابراہیم صاحب دامت برکاتہم
اور حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ
اور حضرت اقدس مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ
کی صحبوں کے فیوض و برکات کا مجموعہ ہیں۔

محمد اختر عفی اللہ تعالیٰ عنہ

فہرست

صفحہ	عنوان
۵	مقدمۃ الکتاب
۷	اصلاح اخلاق
۷	اچھے اخلاق
۸	ارشاد حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
۸	بُرے اخلاق
۹	﴿اچھے اخلاق کی تعریف اور ان کے حصول کا طریقہ﴾
۹	● قوب اور اس کا طریقہ
۹	● خوف اور اس کا طریقہ
۹	● اللہ تعالیٰ سے امید و اور رحمت رہنا اور اس کا طریقہ
۱۰	● حیا اور اس کا طریقہ
۱۱	● شکر اور اس کا طریقہ
۱۲	● وفا یعنی عہد کو پورا کرنا
۱۳	● بُر
۱۴	● اخلاص یعنی بھی نیت
۱۵	● مراثی یعنی دل سے اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنا
۱۶	● قرآن پاک میں دل لگانے کا طریقہ
۱۶	● نماز میں دل لگانے کا طریقہ
۱۷	● اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ
۱۹	● اللہ تعالیٰ کی محبت کس بندے کے ساتھ ہے؟
۲۱	● بڑوں کا ادب
۲۲	● چھپوں پر شفقت
۲۲	● تسلیم و رضا اور تفویض و دُعا
۲۶	● تفویض اور دُعا کا اجتماع
۲۷	● توکل یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے
۲۷	● توکل کے بارے میں غلط فہمی
۲۸	﴿بُرے اخلاق اور ان کا علاج﴾
۲۸	● اپنے کو بڑا بھخت کی بیماری
۲۹	● تکبیر اور تجھب کا علاج
۳۲	● تجھب پر اشکال اور جواب

صفحہ	عنوان
۳۲	● سالکین کی تباہی
۳۳	● تکبیر کا حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد فرمودہ علاج
۳۴	● فرقہ در میان ریا و عجب و تکبیر
۳۵	● چلت اور تکبیر کا فرق
۳۵	● توضیح میں تکبیر
۳۵	● حسد کی بیماری اور اس کا علاج
۳۶	● حسد کا علاج
۳۷	● کینہ اور اس کا علاج
۳۷	● حرص اور دنیا کی محبت کا علاج
۳۹	● بے جا غصہ اور اس کا علاج
۴۰	● غصہ نہ روکنے کا ایک عبر تناسک واقعہ
۴۱	● غصہ کے علاج کا بہترین موثر مرافقہ
۴۲	● بد نگاہی، سینے کی خیانت اور حسن پرستی
۴۳	● بد نگاہی اور حسن پرستی کا علاج
۴۴	● پچھوں کی اصلاح
۴۴	● یائغین کی اصلاح
۴۹	● بد گمانی کی بیماری اور اس کا علاج
۵۰	● زبان کی بیک آفتوں کا بیان
۵۱	● ریا یعنی وکھوں اور اس کا علاج
۵۲	● دعا برائے حفاظت ریا و شرک
۵۳	● ثیابت کرنا
۵۸	● کذب یعنی جھوٹ بولنا
۵۸	● گانی مکنا
۵۹	● خلک مزاحی اور وکھائیں
۵۹	● لوگوں کی خطاؤں کا معاف کرنا
۵۹	● بولنا چھوڑنا
۶۰	● وعدہ اور امانت
	● شیخ سے متعلق حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اہم ارشاد

مقدمة الکتاب

محمد اختر عفان اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتا ہے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے غفلت اور شستی کے باعث نفس کو برا یوں سے پاک نہ کیا وہ نامراد رہا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ترکیہ نفس کو فرضِ عین فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ترکیہ فعل متعدد ہے جس سے معلوم ہوا کہ یہ ایسا فعل نہیں جو صرف اپنے فاعل پر تمام ہو جیسا کہ فعل لازم کا خاصہ ہے بلکہ ایک مُزَّکَی اور مُوَتَّقی کی ضرورت ہے جو ترکیہ اور تربیت کرے۔ پس اپنی اصلاح کوئی انسان خود نہیں کر سکتا۔ کسی مصلح کی اشد ضرورت ہے اور چونکہ فرض کا مقدمہ فرض ہوتا ہے، اس لیے مصلح تلاش کرنا اور اس کی صحبت حاصل کرنا بھی فرض ہوا، لیکن انسان کو جب تک اپنے نفس کے اخلاقِ حمیدہ اور اخلاقِ رذیلہ کا علم نہیں ہوتا اس کو اچھائی برائی کی پہچان بھی نہیں ہوتی بلکہ برائی کو اچھائی اور اچھائی کو برائی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ بزرگوں کے پاس بھی جاتے ہیں مگر بے اخلاق اور دل کی بیماریوں کا علم نہ ہونے سے برسوں گذر جاتے ہیں انہیں اپنی اصلاح کی فکر اور مدیر سے غفلت رہتی ہے۔ اس لئے ہمارے ایک مخلص دوست مولانا محمد زیر صاحب نے احقر سے فرمائش کی کہ ایک ایسا مختصر سارسالہ ”اچھے اخلاق اور برے اخلاق“ پر مشتمل مرتب کر دیا جائے جس کو احباب میں تقسیم کرنا بھی آسان ہو۔ مولانا موصوف کے اخلاص کی برکت سے حق تعالیٰ نے احقر کو توفیتِ بخشی اور یہ رسالہ مسٹی ہے ”اصلاح اخلاق“۔

مرتب ہو گیا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول و نافع فرمائیں۔ آئین!
العارض محمد اختر عفان اللہ تعالیٰ عنہ

ماخذ مصائب:

- ۱۔ تعلیم الدین حضرت حکیم الامت مجدد الملک مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ
 - ۲۔ فروع الایمان حضرت حکیم الامت مجدد الملک مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ
 - ۳۔ بہشتی زیور حضرت حکیم الامت مجدد الملک مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ
 - ۴۔ کمالات اشرفیہ حضرت حکیم الامت مجدد الملک مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ
- نوٹ:** ان کتب کے علاوہ اپنے اکابر و مشانع کی تعلیمات و ارشادات نیز
اپنے ذاتی تجربیات بھی شامل ہیں۔



ارشاد حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

فرمایا کہ سلوک کا حاصل یہ ہے کہ:

اخلاقِ رذیلہ جاتے رہیں اخلاقِ حمیدہ پیدا ہو جائیں
غفلتِ من اللہ جاتی رہے توجہِ الی اللہ پیدا ہو جائے۔

(ملفوظات کمالات اشرفیہ)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

اصلاح اخلاق

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش خلقی (اچھے اخلاق) گناہوں کو اس طرح پکھلا دیتی ہے جس طرح نمک کے پھر کو پانی پکھلا دیتا ہے اور بد خلقی (بُرے اخلاق) عبادت کو اس طرح خراب کرتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کرتا ہے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ تم سب میں میرا پیارا اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھے بُرا لگنے والا اور آخرت اخلاق اچھے ہوں اور تم سب میں سب سے زیادہ مجھے بُرا لگنے والا اور آخرت میں سب میں سے مجھے سے زیادہ دور رہنے والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق بُرے ہیں۔ اور فرمایا کہ جونزی سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔

اچھے اخلاق

توبہ، صبر، شکر خوف، امید، دنیا سے بے رغبتی، حیا، خدا پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ سے ملاقات کی ترپ، عبادت میں صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت یعنی اخلاص، عبادت کو سنت کے مطابق ادا کرنا جس کو صدق کہتے ہیں، یہ دھیان ہر وقت رکھنا کہ حق تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں جس کو مراقبہ کہتے ہیں، ہر روز اپنے اعمال کا حساب خود کرنا کہ کیا کیا ہم سے نیک اعمال ہوئے اور کیا کیا بُرے اعمال ہوئے، تفکر یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرنا اور معرفت و عظمت خدائے تعالیٰ کی حاصل کرنا (از تعليم الدین) وفایے عهد، تواضع، رحمت و شفقت، حق تعالیٰ کے فیماں پر یعنی قضاء الہی پر راضی رہنا، توکل، حلم، تفویض، تسلیم، یقین۔

(از فروع الایمان)

صبر و شکر و قناعت و حلم و یقین
تفویض و توکل و رضا و تسلیم
اس شعر کے اندر سب اخلاق حمیدہ جمع ہیں۔

ارشاد حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
فرمایا کہ اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ تم سے کسی کو کسی تم کی ایذا اور تکلیف
ظاہری یا باطنی سامنے یا پیچھے یا پیچھے نہ پہنچے۔

(کمالات اشرفیہ ص: ۹۳۔ ملفوظ تیرہ ۲۲)

اور فرمایا کہ اگر تقویٰ کے کسی درجہ عمل سے کسی کی دل ٹکنی ہوتی ہو تو تقویٰ پر
عمل کرنا چاہئے۔ ایسے موقع پر تقویٰ کی حفاظت جائز نہیں مثلاً اگر ہدیہ قبول کرنے
میں اپنی ذلت، ہوا و بھائی کی عزت ہو تو بھائی کی عزت کو اپنی عزت پر ترجیح دو۔
(ایضاً۔ ملفوظ تیرہ ۲۲)

بُرے اخلاق

عجب، تکبیر، چغل خوری، کینہ، حسد، غصہ، بدخواہی، بدگمانی، حب دنیا،
فضول اور خلاف شرع کلام کی ہوس، غبیت، جھوٹ، بخل، ریا (از تعییم الدین و
فردوس الایمان) شہوت، بدزگاہی، عشق مجازی۔ (از رقم)
اور ارشاد فرمایا کہ عدم قصد ایذا کافی نہیں بلکہ قصد عدم ایذا ضروری ہے۔
اس شعر کے اندر سب بُرے اخلاق جمع ہیں۔

حرصل وال غصب و دروغ و غبیت
بخل و حسد و ریا و کبر و کینہ



اچھے اخلاق کی تعریف اور ان کے حصول کا طریقہ ﴿توبہ اور اس کا طریقہ﴾

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے الندم توبہ گناہ سے دل کا نادم اور شرمند ہو کر بے چین ہو جانا یہی توبہ ہے۔ مختصر یہ سمجھ لیجئے کہ جب کسی بڑے آدمی کا کچھ قصور ہو جاتا ہے تو کس طرح اس سے معدترت کرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، پاؤں پکڑتے ہیں، اس کے سامنے جب توبہ کرنے کا سامنہ بناتے ہیں، بھلا اللہ تعالیٰ کے سامنے جب توبہ کریں تو کم از کم ایسی حالت تو ضرور ہوئی چاہئے۔ ایسی توبہ حسب وعدہ خداوندی ضرور قبول ہوتی ہے۔ توبہ کی توفیق کے لئے قرآن اور حدیث میں جو عذاب کے ذکر ہیں ان کو سوچا کرے، اس سے دل گناہ سے بیزار ہوگا۔ زبان سے توبہ کے ساتھ جو نماز روزہ قضا ہوں اس کی فضاعماء سے دریافت کر کے شروع کر دے، بندوں کا حق یاوارثوں کو ترکہ نہ دیا تو ان کو ادا کرے۔ اگر مجبور ہو یعنی ادا میگی کی استعداد نہ ہو تو معاف کرائے۔

﴿خوف اور اس کا طریقہ﴾

حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایمان والے کا دل بے خوف نہیں ہوتا اور اس کے خوف کو کسی طرح سکون نہیں ہوتا۔ طریقہ خوف پیدا کرنے کا یہ ہے کہ ہر وقت خیال رکھ کر اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال اور اقوال اور ظاہر اور باطن کے تمام بھیوں کو جانتے ہیں اور مجھ سے قیامت کے دن حساب لیں گے۔

﴿اللہ تعالیٰ سے امید و ایرحمت رہنا اور اس کا طریقہ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید وہ لوگ

ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رحمت کا امیدوار ہنا ایمان کا جزء ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوب فرمائبرداری اور عبادت کرے اور نافرمانیوں سے خوب ہمت کر کے بچے اور یہ طبعی بات ہے کہ آدمی جس کی اطاعت کرتا ہے اس سے امید یہ رکھتا ہے اور جس کی نافرمانی کرتا ہے اس سے دل کو وحشت اور نامیدی سی ہو جاتی ہے اور توبہ کرتے وقت امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی غیر محدود وسعت پر نظر رکھے اور یقین رکھے کہ میری توبہ ضرور قبول ہو جائے گی۔ جب تھوڑی سی بارود سے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو حق تعالیٰ کی رحمت میں کتنی طاقت ہو گی جس سے کہ گناہوں کے پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ مگر رحمت کے سہارے پربے خوف ہو کر گناہوں کا عادی بن جانا سخت دھوکہ اور خطرناک ہے۔ کیا مرہم کی ڈبیہ جو جلنے میں سو قصہ مفید ہوا س کے سہارے پر کوئی آگ میں با تھہ ڈالتا ہے۔

﴿ حیا اور اس کا طریقہ ﴾

شرم بہت اچھی صفت ہے۔ اگر مخلوق سے ہو تو ایسی حرکت نہ کرے گا جس کو مخلوق ناپسند کرتی ہو اور اگر خالق سے حیا پیدا ہو جائے تو ان کاموں سے بچے گا جو خالق کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی وقت تھاںی کا مقرر کر کے بیٹھ جائے اور اپنی نافرمانیوں کو اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرے۔ چند روز میں حیا قلب میں آنے لگے گی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے شرم محسوس ہو گی۔

تصدق اپنے خدا کے جاؤں یہ پیار آتا ہے مجھ کو انشاءِ ادھر سے ایسے گناہ پیغم اُدھر سے وہ دمدم عنایت جب یہ شرم غالب ہو گی ہرگز نافرمانی نہیں ہو سکتی۔

﴿شکر اور اس کا طریقہ﴾

شکر کی دو تسمیں ہیں۔

(۱) خالق کا شکر کرنا،

(۲) جس مخلوق کے واسطے نعمت عطا ہواں کا شکر ادا کرنا۔

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جس نے آدمیوں کی ناشکری کی اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ، استاد، شیخ اور تمام احسان کرنے والوں کا شکر گزار ہونا اور ان کا ادب کرنا حق تعالیٰ کی شکر گزاری کا جزء ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص سے کوئی چیز ملی تو اگر ہدیہ کے بدلے میں ہدیہ دینے کی وسعت ہو تو عوض دے اور اگر میسر نہ ہو تو دینے والے کی تعریف کرے، اس طرح اس کا شکر ادا ہو جائے گا اور اگر اس کو پوشیدہ رکھا تو اس نے ناشکری کی۔ شکر کی حقیقت نعمت کی قدر کرنی ہے اور جب نعمت کی قدر کرے گا تو نعمت دینے والے کی بھی قدر کرے گا۔ اسی طرح خالق اور مخلوق دونوں کا شکر ادا کرے گا اور شکر زبانی سے زیادہ اہم عملی شکر ہے یعنی اپنے اوپر احسان کرنے والے مالکِ حقیقی کی نافرمانی نہ کرے گا اور فرمانبرداری کی پوری کوشش کرے گا۔ اسی طرح ماں باپ اور استاد اور پیر کے حقوق بجالائے گا۔ شکر نعمت سے نعمت میں ترقی کا وعدہ قرآن پاک میں ہے۔ مگر شکر کی تکمیل اعمال صالح اور گناہوں سے حفاظت پر منحصر ہے اور توبہ و استغفار سے تלאنی بھی اس میں شامل ہے۔

حق تعالیٰ کی نعمتوں سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہونا اور اس محبت سے یہ شوق پیدا ہونا کہ جب وہ ہم کو ایسی ایسی نعمتیں دیتے ہیں تو ان کی خوب عبادت کرو ایسی نعمت دینے والے کی نافرمانی بڑے شرم کی بات ہے، یہ

شکر کا خلاصہ ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو خوب سوچا کرے اور یاد کیا کرے، ہر روز اس کے لئے چند منٹ مقرر کر لے تاکہ نامہنست ہو، اس کا نام مراقبہ انعامات الہیہ ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمیں ہیں اگر کوئی صیبیت آجائے تو اس کو بھی اپنے لئے منید سمجھے اور نعمت سمجھے۔

﴿ وَقَالَ يَعْنَى عَهْدَكُو پُوراً كَرْنَا ﴾

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں! عہد کو پورا کرو بے شک عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا یعنی قیامت کے دن سوال ہو گا کہ پورا کیا تھا یا نہیں؟ عہد کا پورا نہ کرنا علامت نفاق کی ہے جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے۔ البتہ خلاف شریعت اگر وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرنا درست نہیں ہے۔

﴿ صَبْرٌ ﴾

حدیث شریف میں وارد ہے کہ صبر نصف ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔

انسان کے اندر دو قویں ہیں۔ ایک دین پر ابھارتی ہے، دوسرا خواہش نشانی کو ابھارتی ہے۔ پہلی قوت کو دوسرا قوت پر غالب کر دینے کا نام صبر ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ خواہشات نشانی کے تقاضوں پر عمل نہ کرے اور ذکر اللہ، صحیت اہل اللہ، موت و قبر و دوزخ کے مرافقہ سے صبر کی طاقت پیدا ہوئی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ نفس کو دین کی بات پر پابند رکھنا اور دین کے خلاف اس سے کام نہ ہونے دینا اس کو صبر کہتے ہیں۔ اگر مالدار ہے تو ایسے دولت والوں کے لئے صبر یہ ہے کہ دماغ خراب نہ ہو، خداۓ تعالیٰ کو نہ بھول جائے، موت اور قبر کی بے کسی کا وحشیان رکھے، غریبوں کو حقیر نہ سمجھے، ان کے ساتھ ترقی اور احسان کرے۔ دوسرا موقع صبر کا یہ ہے کہ عبادت کے وقت سُستی نہ آنے و نے خواہ نماز ہو یا

زکوٰۃ دینا ہو۔ ایسے موقع پر صبر تین طرح کا ضروری ہے۔ عبادت سے پہلے نیت درست کرے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے کرتا ہوں۔ نفس کی کوئی غرض شامل نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ عبادت کے وقت کم ہمت نہ کرے، خوب ہمت سے دل لگا کر سنت کے مطابق عبادت کرے اور دل کو بھی حاضر رکھنے کا اہتمام کرے۔ تیسرا یہ کہ عبادت کے بعد کسی کے سامنے اپنی عبادت کو ہتھ پھرے۔ تیسرا موقع صبر کا گناہ کے تقاضے کے وقت کا ہے، اس وقت صبر یہ ہے کہ نفس کو گناہ سے روکے۔

چوتھا موقع صبر کا یہ ہے کہ جب کوئی خلوق تکلیف دے، مُرا بھلا کہے تو اس وقت کا صبر یہ ہے کہ بدله نہ لے، خاموش رہے اور یہ خیال کرے کہ ہم آج اس کی خطا معاف کردیں گے تو کل حق تعالیٰ ہماری خطا معاف کردیں گے۔ پانچواں موقع صبر کا یہ ہے کہ مصیبت اور بیماری اور مال کے نقصان یا کسی عزیز قریب کے مرجانے کے وقت صبر کرے۔ اس وقت کا صبر یہ ہے کہ زبان سے خلاف شرع کلنے کہے۔ اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہ کرے کہ ایسا مجھ پر ظلم کیوں کیا یا اتنی جلدی ہمارے عزیز کو کیوں موت دے دی اور نہ بیان کر کے روئے۔ البتہ طبع غم سے رونا اور آنسو بہانا اور اس صدمہ کا اپنے خاص احباب سے اس نیت سے اظہار کرنا کہ اس سے دل کا غم یا کا ہو جاتا ہے جائز ہے کیونکہ بعض وقت بالکل صبر اور خاموشی سے دل کو بیماری لگ جاتی ہے۔ ایسے موقع پر ان کے لئے ہے اور یہ سوچ کہ بے صبری سے تقدیر یا تعلق نہیں تھا۔ ثواب بھی کیوں کھو یا جائے۔

جب پریشانی پہ میل جاتا ہے اجر
پھر پریشانی، پریشانی کہاں

کام ہوتا نہیں ہے کوئی مشیت کے بغیر
 اور مشیت نہیں ہوتی کوئی حکمت کے بغیر
 حسرت سے میری آنکھیں، آنسو بہار ہی ہیں
 دل ہے کہ ان کی خاطر، تسلیم سر کیے ہے
 ॥ اخلاص یعنی سچی نیت کرنا ॥

دین کا جو کام کرے اس میں رضائے الہی کی نیت کرے، دنیا کا کوئی
 مطلب نہ ہو، نہ دکھلاوا ہو کہ لوگ بزرگ سمجھیں وغیرہ۔ اسی طرح مثلاً پیش میں
 درد ہوا اور بھوک نہ ہو تو روزہ رکھ لیا کہ معدہ صحیح اور ہلکا ہو جائے گا۔ اسی طرح گرم
 لگ رہی ہے اس نیت سے تازہ وضو کیا کہ ٹھنڈک حاصل ہو یا کسی سائل کو اس
 نیت سے دیا کہ یہ بمل جائے یہ سب باقیں سچی نیت کے خلاف ہیں۔ جب کوئی
 عبادت کرے تو دل کو ہر اس غرض سے خوب صاف کر لے جو رضائے حق کے
 علاوہ ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو دکھلانے
 کے لئے عمل کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب دکھلائیں گے اور ارشاد
 فرمایا کہ تھوڑا سا دکھلاوا (ریا) بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ ریا کے خوف سے اچھے
 عمل کو ترک کرنا بھی ریا ہے۔

شیطان اکثر ریا کے خوف سے اچھے اچھے اعمال کرنے سے روکتا ہے اور وہ سہ
 ڈالتا ہے کہ یہ نیک کام کرو گے تو دکھلاوا ہو جائے گا تو معلوم ہونا چاہئے کہ ریا کے
 خوف سے نیک عمل کا ترک کرنا خود ریا ہے یعنی جس طرح مخلوق کے لئے کوئی کام
 کرنا ریا ہے اسی طرح مخلوق کے جان لینے یا دیکھ لینے کے خوف سے نیک عمل کو
 ترک کرنا بھی ریا ہے۔ پس شیطان کو یہ جواب دے کہ جب ہمارا رادہ مخلوق کو

دکھانے کا نہیں ہے تو پھر ریا یعنی دکھاوا کیسے ہوگا، ہم تو ریا کو بُرا سمجھتے ہیں اور فوراً اعمالِ صالح میں لگ جائے خواہ کوئی دوست یا رشتہ دار سامنے ہو، وہ سہ کا کچھ خیال نہ کرے، ریا کے خیال اور وہ سے سے ریا نہیں ہوتا جب تک دکھانے کا ارادہ نہ کرے، اس طرح جب آپ وہ سوں اور خیالات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اچھے عمل کریں گے تو شیطان عاجز ہو کر خود دفعہ ہو جائے گا۔

حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ریا ہمیشہ ریا نہیں رہتی، کوئی اول ریا سے کام کرتا ہے پھر ریا سے عادت ہو جاتی ہے پھر عادت اور اخلاص سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ حضرت خواجہ صاحب مجد و ب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کو شعر بنادیا ہے۔

وہ ریا جس پر تھے زاہد طعنہ زن
پہلے عادت پھر عبادت ہو گئی

خلاصہ یہ کہ جو ریا بل ارادہ ہو اس کی پرواہ نہ کرے اور اس کی وجہ سے عمل کو ترک نہ کرے۔

﴿مراقبہ یعنی دل سے اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنا﴾

دل سے ہر وقت دھیان رکھے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سب حالات کی خبر ہے خواہ ظاہری حالت ہو یا دل کے خیالات اور ارادے ہوں اگر بُرا کام کرے گا یا دل میں بُرا خیال لائے گا تو شاید اللہ تعالیٰ دنیا میں یا آخرت میں سزادیں اور عبادت کے وقت یہ خیال جائے کہ اللہ تعالیٰ میری عبادت کو دیکھ رہے ہیں اس لئے اچھی طرح عبادت کرنی چاہئے۔ طریقہ اس مراقبہ کا یہی ہے کہ ہر روز وقت مقرر کر کے تھوڑی دری یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہمارے دل کو دیکھ رہے ہیں پھر ایک عرصے کے بعد چلتے پھرتے بھی بھی دھیان اور خیال جم جائے گا

اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس مراقبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہوگا۔

﴿ قرآن پاک میں دل لگانے کا طریقہ ﴾

جب تلاوت کا ارادہ کرے تو یہ سوچ لیا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمائش کی ہے کہ ہمارا کلام سناؤ دیکھیں کیسا پڑھتے ہو اور خیال کرے کہ کسی بڑے آدمی کے کہنے سے جب قرآن پاک سناتے ہیں تو کتنا عمدہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر جب اللہ تعالیٰ یقیناً سن رہے ہیں تو کس قدر عمدہ تلاوت کرنی چاہئے۔ تلاوت کرتے کرتے دل میں اگر غفلت آجائے تو پھر اسی خیال کوتازہ کر لیا جائے۔ ایک مدت مشق کرنے سے دل آسانی سے لگنے لگے گا۔

﴿ نماز میں دل لگانے کا طریقہ ﴾

جب نماز شروع کرے تو یہ خیال کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں اور حق تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں۔ قیامت کا میدان ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، جنت و دوزخ سامنے ہے، اس خیال سے خوب ذل لگے گا اور ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے کہ ہر لفظ کوارادہ کر کے پڑھنے جو لفظ منہ سے نکالے پہلے سوچ لے کہ اب یہ لفظ نکال رہا ہوں۔ تیرا طریقہ یہ بھی ہے کہ جو کچھ نماز میں پڑھا کرتے ہیں اس کا ترجیح یاد کر لیں اور ہر لفظ کو پڑھتے وقت اس کے معنی کی طرف دھیان اور خیال جائیں اس طرح بندہ کو یہ معلوم کر کے کہ میں اپنے مالک اور رب سے کیا عرض کر رہا ہوں، خوب لطف آتا ہے اور جب سجدہ کرے تو یہ تصور کرے کہ ہمارا سر حق تعالیٰ کے قدموں پر ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب مومن سجدہ کرتا ہے تو اس کا سر حُمَن کے قدموں پر ہوتا ہے، سبحان اللہ کیا ہی مبارک وہ سر ہے جو اپنے مالکِ حقیقی کے قدموں میں پڑا ہوا ہے۔ اس کا لطف

عاسقوں سے پوچھنا چاہئے۔ حضرت شاہ فضل رحمٰن صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تھا کہ میاں اشرف علی جب سجدہ میں سر رکھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا پیار کر لیا۔ سجدہ میں خاص قرب اللہ والوں کو عطا ہوتا ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے۔
پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی اوہ نظر بھی ہے

بڑھ کے مقدر آزماء سر بھی ہے سنگِ ذر بھی ہے
اور ایک طریقہ نماز میں دل لگانے کا یہ ہے کہ ہر کن میں یہ سوچ کہ اب مجھے
اسی رکن میں رہنا ہے مثلاً قیام میں سوچ کے اب مجھے قیام ہی میں رہنا ہے،
رکوع میں سوچ کے اب رکوع ہی میں رہنا ہے، سجے میں سوچ کے اب مجھے
سجدے ہی میں رہنا ہے۔

﴿اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ﴾

(۱) اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی کسی آدمی کے پاس ہر روز تھوڑی دریے کے لئے حاضری دیتا ہے تو کچھ دن بعد دونوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور ایک مدت تک ہر روز کی ملاقات کا یہ تجھہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی ناغد ہو جائے تو دونوں ایک دوسرے کے لئے بے چین ہو جاتے ہیں۔ اور ایک دوسرے کا انتظار کرتے ہیں۔ اس مشاہدہ پر دلائل کی بھی ضرورت نہیں۔ اسی طرح ہر روز اللہ تعالیٰ سے تھوڑی دریکی ملاقات کرنا شروع کر دے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا طریقہ یہ ہے کہ تسبیح لے کر تھوڑی دری باوضو قبلہ روتھائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا کرے، ذکر میں کلمہ شریف، درود شریف، تلاوت قرآن پاک، اللہ اللہ سب شامل ہے۔ یہی ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے۔ وارد ہے ”انا جليس من ذكرني“ یہ حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے

ذاکر بندے کا ہمنشین ہوتا ہوں۔ یعنی اس کے پاس ہوتا ہوں پس ملاقات کی کیسی آسان صورت بندوں کے پاس ہے کہ جب چاہیں اپنے رب سے ملاقات کر لیں، ذکر شروع کیا اور ملاقات ہوئی، چلتے پھرتے اگر یہ نعہ لگاتے رہیں یا آہستہ پڑھتے رہیں ”یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرة“ تو اللہ تعالیٰ کے ان تینوں ناموں کی برکتوں اور ان کی خوبیوں کا ظہور اس بندے پر ہو گا جب ”یا حلیم“ کہا تو گویا صفت حلم کو طلب کیا۔ اور حلم قدرت رکھنے کے باوجود انتقام نہ لینے کو کہتے ہیں۔ تو وہ قادر مطلق بھی قدرت رکھتے ہوئے اس گنگار بندے سے انتقام نہ فرمائیں گے۔ پھر جب ”یا کریم“ کہا تو گویا صفت کرم کو پکارا، پس اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انتقام نہ لینے کے ساتھ انعام بھی عطا فرمائیں گے پھر جب ”یا واسع المغفرة“ کہا تو اپنی غیر محدود اور وسیع قدرت مغفرت سے اس گنگار بندے کے مدد و گناہوں کو معاف بھی فرمادیں گے، اگر چلتے پھرتے اور لیٹے بیٹھے ان کلمات کے ورد کی عادت ڈال لے تو بہت ہی انعاماتِ قرب سے مالا مال ہونے کی توقع ہے اور اس کی برکت سے یہ شخص بھی حلیم اور کریم اور رسول کی خطائیں معاف کرنے والا بن جائے گا۔ لہذا غصہ سے مغلوب ہو جانے اور انتقام کے جذبات سے بے قابو ہونے نیز بخیل اور لوگوں کی خطاؤں کو نہ معاف کرنے والے روحانی مریضوں کے لئے ان کلمات کا کثرت سے ورد کیما اور اکسیر ہے۔ ایک بد خلق انسان ان کلمات کو اخلاص اور اصلاح کی نیت سے پڑھنے سے ان شاء اللہ تعالیٰ خوش خلق بن جائے گا۔

(۲) دوسرا طریق اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچا کرے کہ یہ آسمان، یہ زمین، دریا اور پہاڑ اور درختوں، جانوروں، پرندوں یعنی تمام کائنات کو حق تعالیٰ نے ہماری پرورش کے لئے پیدا فرمایا اور ہم کو اپنی عبادت کے

لئے پیدا فرمایا ہے اور ہر ہر نعمت کو یاد کر کے شکر ادا کرے۔ یہ عقلی بات ہے کہ محنت سے طبعی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔

(۳) تیرا طریقہ جو دونوں طریقوں کی روح ہے اور نہایت ہی اکسیر ہے وہ یہ ہے کہ بھی کبھی حق تعالیٰ کے عاشقوں کے پاس حاضری دیا کرے اور عقیدت و محبت سے ان کی باتیں سنائے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اللہ والوں کے دل تقویٰ کی کامیں ہیں پس جس طرح سونا سونے کی کان سے، چاندی چاندی کی کان سے، نمک کونک کی کان سے حاصل کرتے ہیں تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے خزانے کو اللہ والوں کی صحبوتوں سے حاصل کرنا چاہئے اور جس طرح نمک کی کان میں ایک گدھا گر کر مر گیا تو وہ بھی نمک بن گیا تھا اسی طرح ان کی صحبت میں اگر اپنی رائے فتا کر کے اپنے جاہ و مرتبہ کو مٹا کر کچھ دن رہ لیجئے تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ بھی اللہ والے بن جائیں گے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم پتھر ہو تو نا امید نہ ہو، اہل دل کے پاس جانے سے موتی بن جاؤ گے۔ یہ تینوں باتیں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کی حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ارشاد فرمائی ہوئی ہیں جن کو احرق نے تشريع کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ احقر کو بھی اور ناظرین کرام کو بھی اپنی محبت کی دولت سے نوازش فرمائیں۔ آمین۔

﴿اللہ تعالیٰ کی محبت کس بندے کے ساتھ ہے؟﴾

سید الاولیاء حضرت سید احمد رفائلی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ

جس بندے سے محبت فرماتے ہیں:-

(۱) اس کے عیوب اس کو دکھادیتے ہیں جو خود اس کے اندر ہوتے ہیں۔

(۲) اور اس کے دل میں تمام مخلوق کی محبت اور شفقت پیدا کر دیتے ہیں۔

- (۳) اس کے ہاتھ کو خواوت کا عادی کر دیتے ہیں۔
- (۴) اور اسے مہمان نوازی کا خاص شوق عطا فرماتے ہیں اور یہ وہ عبادت ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبل نبوت بھی کیا کرتے تھے۔
- (۵) اور اس کے نفس میں بلند ہمتی اور چشم پوش پیدا کر دیتے ہیں اور اپنے عیوب پر نظر کرنے کی توفیق اس قدر دیتے ہیں کہ اپنے کوسب سے کم دیکھنے لگتا ہے اور کسی قابل اپنے کو نہیں سمجھتا۔
- (۶) اور اس ذلت و مسکنت اور عاجزی کی راہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے خزانے میں بڑائی کی کمی نہیں ہے لیکن عاجزی اس کے خزانے میں نہیں ہے کیونکہ یہ صفت بندہ کی ہے خدا سے پاک ہے۔ پس بندہ کی اس صفت کو حق تعالیٰ محبوب سمجھتے ہیں۔
- (۷) مخلوق میں بڑا بننے اور افضل سمجھنے کی خواہش اس کے قلب سے نکال دیتے ہیں۔
- (۸) اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب سے پیش آتا ہے جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ مخلوقِ الہی کا ادب کرتا ہے کیونکہ حق تعالیٰ کی مخلوق دربارِ خداوندی کی دلیزیں ہیں اور دروازے ہیں اگر تم کو مخلوقِ الہی کے ادب کی حقیقت معلوم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جانے کے دروازے بھی تمہارے واسطے کھل رکھے ہیں اور اگر تم مخلوق کے ساتھ جھگڑتے رہو گے تو مخلوق میں پھنس کر اللہ تعالیٰ کے قرب سے محروم رہو گے۔ مخلوق کا ادب یہ ہے کہ لوگوں کا دل ہاتھ میں لو، ان کی دلداری کرو۔ اس لئے جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص قرب اور معرفت کا سچا ذوق عطا فرمایا وہ دلوں کے جوڑ نے ہی میں لگ رہے۔ انہوں نے لوگوں کے پیروں تلے راستوں میں اپنے رخسارے بچھادیئے اور اس تواضع اور خاکساری

کی بدولت ان کی رو جیں مقبولیت کے درباروں میں باطنی بازوؤں سے اٹنے لگیں، پس انہوں نے مخلوق کے ذریعہ حق تعالیٰ کو پہچان لیا۔ حدیث قدیم میں ہے کہ میں ان کے پاس ہوں جن کے دل میری عظمت و کبریائی اور جلال سے ٹوٹے ہوئے ہیں اور میری وجہ سے انکسار و خاکساری اختیار کرتے ہیں۔ یہ حدیث صاف بتا رہی ہے کہ مخلوق کے سامنے تواضع اور خاکساری اختیار کرو مگر اس کا مشاء دنیا کی کوئی غرض نہ ہو بلکہ صرف اللہ کے لئے ہو۔

مگر اس درجہ پر نفس کا مٹانا آسان نہیں ورنہ آج ہر شخص دنیا میں ولی اللہ ہو جاتا۔ یہ نعمت تو کسی بزرگ اللہ کے عاشق کی صحبت سے ملتی ہے مگر مفت نہیں، مجاہدات جھیلنے پڑتے ہیں۔

میں کسی کو مفت دوں مے مری مفت کی نہیں
اور اگر یہ نعمت مفت مل جاتی تو قدر بھی نہ ہوتی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں
کہ سفر جس قدر دشوار ہوتا ہے منزل پر پہنچ کر اسی قدر راحت اور لذت محسوں
ہوتی ہے۔

لیک شرینی و لذاتِ مقر ہست بر اندازہ رنج سفر

﴿بڑوں کا ادب﴾

مال باب، استاد اور اپنے بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت اور علماء کرام کا ادب بھی سعادت مندی کی علامت ہے۔ سعادت کی تعریف کیا ہے؟ سعادت توفیق خیر کا نام ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ بزرگوں کا مقولہ ہے با ادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو اپنے بڑوں کے ساتھ بد تمیزی اور بے ادبی کرتا ہے تو یہ درحقیقت اپنے چھوٹوں کو اپنے ساتھ بد تمیزی

اور بے ادبی کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کی عورتوں سے عفیف رہو، تمہاری عورتیں عفیف رہیں گی اور تم اپنے باپ دادا کا ادب کرو، تمہاری اولاد تمہارا ادب کرے گی اور اگر تم سے کوئی اپنی خطا کی معافی مانگے تو معاف کر دو اور جو معاف نہ کرے گا وہ ہمارے حوض کوڑ سے میدانِ محشر میں محروم رہے گا بالخصوص ماں باپ کو تو اُف کہنا بھی حرام ہے، اگر کسی نافرمان کے ماں باپ مر گئے ہوں تو ان کو کثرت سے ثواب بخشنے، امید ہے کہ یہ شخص فرماں برداروں میں لکھ دیا جائے گا۔

﴿چھوٹوں پر شفقت﴾

اپنے کمزوروں اور بیوی بچوں پر شفقت اور رحم کرنا دل کی نرمی کی اور سعادت کی علامت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا اخلاق رکھتا ہو۔ جو شخص دوست احباب کو تو خوش رکھتا ہو مگر گھر میں آ کر سب کو تسلیک کرتا ہو اور ذرا ذرا سی بات پر غیظ و غضب میں آ کر بیوی بچوں کو رُلاتا ہو اس کے اخلاق کو کیسے اچھا کہا جاسکتا ہے۔ حق تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور بھلائی سے رہنے کا حکم قرآن پاک میں نازل فرمایا ہے۔ وَعَاشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَوَرَعَتْ لَكُنْتَهُوں جو نصیحت کے لیے کافی ہیں۔

حکایت ۱ | ایک صاحب اپنی بیوی کو بات بات میں ڈانتے تھے اور دن رات دوستوں میں دل بھلاتے تھے۔ بیوی تھائی میں دن بھر ان کا انتظار کرتی تھی۔ بعض شوہر کس قدر ظالم ہوتے ہیں کہ جو بیوی اپنے ماں باپ اور تمام خاندان کو چھوڑ کر شوہر کے پاس آئی ہو شوہر اسے چھوڑ کر غیروں سے دل بھلاتا پھرے اور رات میں کھانا کھا کر سوجائے، آخر یہ عورت کس سے دل بھلاتے جو شریعت کے

حکم سے اپنے شوہر کے گھر میں قید ہے۔ بہر حال ایک وقت شوہر پر ایسا آیا کہ ان کو ہیضہ ہو گیا، بار بار تے وست آتے، یہاں تک کہ چار پائی سے لگ گئے حتیٰ کہ چار پائی ہی پر پیشاب پاخانہ ہونے لگا۔ اس وقت وہی یہوی پاخانہ کرا کے استخراج کرتی تھی، اس وقت دنیا کا کوئی رشتہ کام نہ آیا، کوئی وست کام نہ آیا اور شرعاً شوہر کے پاخانہ و پیشاب کے مقام کو سوائے یہوی کے کوئی طہارت نہیں کر سکتا۔ یہ خدمت صرف یہوی ہی انجام دے سکتی ہے۔ ماں بچپن میں تو یہ کام کرتی ہے لیکن بڑے ہونے کے بعد اس کو بھی یہ خدمت کرنا جائز نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ دنیا میں یہوی ہی ایسی نعمت ہے جو اس مصیبت کے وقت کام آتی ہے۔ جب شوہر کو صحت ہو گئی تو یہوی کو بلا یا، رونے لگا اور کہا، ہم کو معاف کرو، ہم نے تمہاری بہت بے قدری کی۔ اس بیماری سے میری آنکھیں حق تعالیٰ نے کھول دیں، میں اندھا تھا اب آنکھیں ملیں۔ آج سے تمہاری خوب قدر کروں گا۔

حکایت ۲ | ایک صاحب اپنی یہوی کے ساتھ بہت لاپرواںی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے اور صرف ضایطہ کا تعلق رکھتے تھے، محبت اور رابطہ کے تعلق کو جانتے بھی نہ تھے، ذرا سی غلطی پر مار پیٹ اور سخت کلامی کرتے تھے۔ مزاج سوداوی تھا۔ خشک مزاجی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں۔ اہلِ محبت ہونا بڑی سعادت اور نعمت ہے۔ بہر حال جب شوہر صاحب کی بیٹی کی شادی ہو گئی اور داماد نے بیٹی کی پٹائی لگائی تو تعویذ لینے دوڑے اور لگے رونے کہ ہائے میرے جگر کے ٹکڑے پر ایسا ظلم ہو رہا ہے، اس کے دکھ درد سے بے پرواہ ہے، میری بیٹی پر کیا گذر تھی ہو گی۔ مولوی صاحب نے جوان کے پرانے وست بھی تھے کہا کہ جب آپ اپنی یہوی کی پٹائی لگاتے تھے اور تمہارات کو چھوڑ کر بھاگتے تھے اور اس کے دکھ درد، دوادجوئی اور اس سے بات چیت کر کے دل بہلانے کی بجائے وستوں میں پڑے رہتے تھے تو اگر

آپ ناراض نہ ہوں تو صاف ہی کہہ دوں کہ وہ غریب یعنی آپ کی بیوی بھی کسی کے جگر کا نکرو، کسی کی بیٹی تھی۔ کاش! اس وقت آپ کو یہ بات سمجھ میں آجائی لیکن اب آسانی سے سمجھ میں آجائے گی۔ یہ سننا تھا کہ وہ صاحب رونے لگے اور کہنے لگے واقعی! مجھ سے بیوی کے ساتھ بے حد ظلم ہوا۔ اس کے بعد سیدھے گھر گئے اور اپنی بیوی سے مذدرت کی اور پھر تمام زندگی نہایت ہمدردی، محبت اور اباطہ کے حقوق سے رہنے لگے اور بیوی کے ہر گم کو اپنا گم سمجھنے لگے اور میاں بیوی کے حقوق اور حسن معاشرت کے آداب کی رعایت کی توفیق ہو گئی۔

﴿ تسلیم و رضا اور تفویض و دعا ﴾

جو بات دنیا میں اپنی مرضی کے نام وافق پیش ہو تو اس پر بعض وقت حد سے زیادہ غم اور گھنٹن سے صحت کو نقصان پہنچ جاتا ہے اور پھر دین کے کاموں میں بھی خلل اور کوتاہی ہونے لگتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو تقدیر پر راضی رہنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سچے کہ یہ بات ہماری مرضی کے تو خلاف ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو پہنچ بھی نہیں ہلتا، چنانچہ یہ معاملہ خدا کی مرضی سے ہے اور مولیٰ کی مرضی ہماری مرضی سے بہتر ہے اور اس میں یقیناً ہمارا فتح ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اپنی رحمت خاص کو ماں، باپ کی رحمت سے ننانوے گنا زیادہ کیا ہوا ہے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گذرے ہیں ان سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کا مزاج کیسا ہے؟ فرمایا اس کے مزاج کا کیا پوچھنا جس کی مرضی سے سارے جہاں میں کام ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے؟ فرمایا کہ دنیا میں ہر کام حق تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے اور میں نے اپنی مرضی کو حق تعالیٰ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے بس جو ہمارے مولیٰ کی مرضی ہے وہی ہماری بھی مرضی ہے۔ اس لیے ہر کام ہماری مرضی سے ہو رہا ہے اور اس وجہ سے میں ہر حال میں

خوش رہتا ہوں۔ حق تعالیٰ کی اس تعلیم سے بندہ ہر حال میں خوش رہتا ہے یعنی تھوڑا بہت رنج غم تو ہو جائے گا مگر بہت زیادہ تکلیف ناقابل برداشت نہ ہو گی اور وہ تھوڑا غم اس بندہ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا لطف بڑھادے گا اور قرب خاص کا ذریعہ ہو گا اور آخرت سے غفلت نہ ہو گی اور دنیا کی محبت سے حفاظت رہے گی۔ یہی وہ تعلیم ہے جس سے اللہ والوں کے دن ورات بڑے چین سے گزرتے ہیں۔

دنیادار تو معمولی پریشانی میں بھی بدحواس اور گھٹتے لگتا ہے اور اللہ والے غم کے پھراؤں کو بھی مچھر کے پر کی طرح تسلیم و رضا کی مجنیق میں رکھ کر اڑا دیتے ہیں۔ رضا بالقصنا کی حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ سے خیر مانگتے رہنا اور راضی رہنا اس کے حکم پر جو جاری کر دیا گیا ہے۔ آدمی کی بدتجھی یہ ہے کہ خیر مانگنا بند کر دے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ناخوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے راضی رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ ناموافق حالات میں طبیعت اور دل کو رنج و غم بھی نہ ہو۔ پھوڑے والا مریض جب آپریشن کرتا ہے تو تکلیف کے باوجود ڈاکٹر سے خوش رہتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے روتے کیا حال ہوا تھا لیکن دل سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی تھے اور اپنام اللہ تعالیٰ ہی سے عرض کرتے تھے۔ حضرت خوبجہ صاحب اسی لذت تسلیم کو بیان فرماتے ہیں۔

سوگ میں یہ کس کی شرکت ہو گئی

بزمِ ماتم بزمِ عشرت ہو گئی

مگر یہ نعمت یعنی حق تعالیٰ کی نرضی پر راضی رہنا جب ہی نصیب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو اور آخرت پر یقین ہو اور یہ یقین و محبت اللہ تعالیٰ کے ذکر و عبادات اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی صحبت ہی سے ہاتھ لگتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے کاجب انتقال ہوا تو فرمایا اے بیٹے ابراہیم! بے شک آنکھیں آنسو بھاتی ہیں اور دل غمگین ہے مگر زبان سے ہم وہی بات

کہیں گے جس سے ہمارا مالک راضی ہوا ورنہ شک ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ ایک صحابی نے جب تجھ سے عرض کیا کہ آپ بھی روتے ہیں تو فرمایا اے این عوف یہ تو رحمت ہے (یعنی یہ روتا رحمت کے سبب سے ہے) حضرت نانو توی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو حضرت گنگوہی کو بڑا غم ہوا فرمایا کہ اگر ایک دولت نہ ہوتی تو اس غم سے چار پائی سے لگ جاتا۔ لوگوں نے دریافت کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ تعلق مع اللہ کی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائیں، آمین۔

﴿تفویض اور دعا کا اجتماع﴾

بعض بزرگوں نے غلبہ حال کے سبب دعا مانگنا بھی ترک کر دیا اور دعا مانگنا تسلیم اور تفویض کے خلاف سمجھا مگر حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مغلوب الحال معدود ہوتا ہے، قابل تقید نہیں ہوتا، قابل تقلید محقق اور غالب الحال ہوتا ہے چنانچہ فرمایا کہ تسلیم اور تفویض کے ساتھ دعا مانگنا یعنی سنت ہے اور ان کو اس طرح جمع کیا جائے کہ دعا تو عافیت کی مانگتا رہے مگر دل سے یہ ارادہ ہو کہ اگر دعا قبول نہ ہوئی تو بھی میں راضی رہوں گا۔

ہمارے مرشد حضرت مولانا شاہ ابرار الحنفی (رحمۃ اللہ علیہ) نے فرمایا کہ مومن ہر حال میں کامیاب رہتا ہے، چتھی اپنی پٹ بھی اپنی۔ یعنی موافق حالت میں شکر سے اور ناموافق حالت پر صبر سے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا رہتا ہے۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گذھی کے کیا خوب اشعار ہیں۔

بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا ہے
جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں، اس حال کو اکمل دیکھا ہے
جس راہ کو ہم تجویز کریں، اُس راہ کو اُعقل دیکھا ہے
جس راہ سے وہ لے جاتے ہیں، اُس راہ کو اکمل دیکھا ہے

﴿ توکل یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ﴾

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ستر ہزار افراد بدون حساب کتاب بہشت میں داخل ہوں گے۔ یہ لوگ ہیں جو جہاڑ پھونک نہیں کرتے اور بدشکونی نہیں لیتے اور اپنے پروارگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ اور دو ابھی نہیں کرتے۔ پس دوا کرنا بھی سنت ہے اور دوانہ کرنا بھی سنت ہے۔ ہر شخص کے لیے (ضعیف اور قوی کے لیے) سہولت کی راہ ہے۔

مطلوب یہ ہے کہ جو جہاڑ پھونک ناجائز ہے وہ نہیں کرتے اور بعض نے کہا ہے کہ افضل بھی ہے کہ جہاڑ پھونک بالکل نہ کرے اور بدشکونی یہ ہے کہ مثلاً کسی کے چیختنے یا کسی جانور کے سامنے نکلنے کو منحوس جانے اور وہ سوں میں چلتا ہو جائے، البتہ نیک فال لینا جائز ہے۔

﴿ توکل کے بارے میں غلط نہیں ﴾

آج کل توکل کے معنی لوگوں نے یہ مشہور کر رکھے ہیں کہ سب تدابیر اور اساباب چھوڑ کر بیٹھ جاؤ یہ مفہوم بالکل غلط ہے۔ شریعت نے جس توکل کی تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ تدابیر اور اساباب جائز طرح پر اختیار کرے پھر بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کرے۔ تدابیر اور اساباب بھیک کے پیالے ہیں، دینا تو خدا ہی ہے۔ یعنی اساباب میں کامیابی حق تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے۔ جو لوگ توکل کے معنی ترک تدبیر سمجھتے ہیں کیا وہ کھانے کے لیے منہ نہیں کھولتے اور پھر کیا کھانا چبا کر نکلتے نہیں ہیں، یہ بھی تو غذہ معدہ تک پہنچنے کی تدبیر ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ توکل کا مفہوم ہی نہیں ہے۔ اسی طرح روزی میں تاخیر سے طبعی تشویش بھی توکل کے لیے مضر نہیں۔ حق تعالیٰ

کے وعدہ رزق پر اعتماد کے باوجود چونکہ وقت اور مقدار متعین نہیں اس لیے کب اور کتنی روزی ملے گی اس میں اگر طبعی پریشانی ہو تو یہ طبعی بات ہے، بلکہ اس سے یہ نفع ہوتا ہے کہ دعا کی خوب توفیق ہو جاتی ہے اور حق تعالیٰ پر عقلانی اعتماد اور بھروسہ بھی ہوتا ہے۔



حصہ دوم

بُرے اخلاق اور ان کا علاج

﴿ اپنے کو بڑا سمجھنے کی بیماری کا علاج ﴾

یہ بیماری بہت ہی خطرناک ہے۔ شیطان کو اسی بیماری نے مردود کیا تھا۔ اس لیے اپنے اوپر تحریر کیا ہوا نہ وہ انسانوں پر بہت اطمینان سے استعمال کرتا ہے اور گمراہ کرنے میں سو فیصد مفید پاتا ہے۔ یہ بیماری بیٹے کو باپ سے، شاگرد کو استاد سے، مرید کو پیر سے اور بندہ کو اللہ تعالیٰ سے لڑنے پر ابھارتی ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا مردود پارگاہ یعنی شیطان اسی بیماری سے تباہ ہوا۔ اس لیے بزرگان دین اپنے احباب اور خدام کو اس بیماری سے چرانے کی بہت زیادہ احتیاط کی مدد ہیریں کرتے ہیں۔ اس بیماری کے سبب آدمی اپنے کو علم یا عبادت یا دینداری یا دولت یا عزت یا عقل یا کسی اور بات میں دوسروں سے افضل اور بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو کمتر اور حضیر سمجھتا ہے۔ ایسے آدمی سے لوگ دنیا میں بھی نفرت کرتے ہیں خواہ منہ کے سامنے خوف یا لامج سے تعریف ہی کرتے ہوں۔ ایسا شخص کسی کی نصیحت کو نہیں مانتا بلکہ نصیحت کرنے والوں سے لڑ جاتا ہے۔ حق بات کو کسی کے کہنے سے قبول نہیں کرتا۔ تکبر کی حقیقت حدیث شریف میں یہی وارد ہے کہ

(۱) لوگوں کو حقیر سمجھے (۲) حق بات کو نہ قبول کرے۔

حدیث کے الفاظ یہ ہیں؛ (۱) غمط الناس (۲) وبطر الحق۔
 یہ دو علامات جس کے اندر ہوں اس کو اپنی بیماری کا اعلان فوراً کرنا چاہیے ورنہ تمام
 نیکیاں خاک میں مل جانے کا خطرہ ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جس کے
 دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا اس کو جنت کی خوبیوں کے ملے گی، جنت میں داخلہ
 تو بہت دور کی بات ہے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جو اللہ تعالیٰ
 کے لیے تواضع اور خاکساری اور عاجزی سے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں میں
 بلندی اور عزت سمجھتا ہے اگرچہ وہ اپنے آپ کو اپنے دل میں کمتر سمجھتا ہے اور جو تکبر
 اور بڑائی سے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتا ہے یہاں تک کہ متنکر شخص لوگوں
 میں کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اپنے دل میں یہ اپنے کو
 بہت بڑا سمجھتا ہے۔ اس روایت کو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی
 کتاب "خطبات الاحکام" میں نقل فرمایا ہے۔ اور اگر کسی کو حقیر نہ سمجھے صرف اپنے کو
 اچھا سمجھتا ہے، اپنے کمالات اور اچھے حالات کو عطا نے خداوندی سمجھنے کی بجائے اپنا
 ذاتی کمال سمجھتا ہے اور اپنی ہر نعمت علم و تقویٰ، استقامت، ریاضت و عبادت، حسن
 و جمال، دولت و عزت و اخلاقی حسنے کے سلب ہونے اور زوال اور تغیر کا خوف نہیں
 رکھتا تو اس کا نام غیب ہے۔ شریعت میں تکبر اور عجب دونوں حرام ہیں۔ حضرت حکیم
 الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کمالات اشریف میں ایک ملفوظ درج ہے کہ جب بندہ
 اپنی نظر میں بُرا اور حقیر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھا ہوتا ہے اور جب اپنی نظر
 میں اچھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بُرا ہوتا ہے۔

﴿ تکبر اور عجب کا اعلان ﴾

تکبر کا اعلان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو یاد کرے اور اپنے خاتمہ کو سوچے

کہ نہ جانے کس طرح خاتمہ لکھا ہوا ہے اور ممکن ہے کہ ہمارا کوئی کام اللہ تعالیٰ کو ایسا ناپسند ہو گیا ہو کہ سب نیکیوں پر پانی پھر جاوے اور جس کو ہم حیرت سمجھتے ہیں ممکن ہے کہ اس کا کوئی عمل زندگی بھر میں ایسا اللہ تعالیٰ کو پسند آیا ہو کہ اس کی برکت سے اس کی تمام خطائیں معاف ہو جاویں اور بزرگوں نے ایک حکایت بیان کی ہے کہ اس سے اس بیماری کے علاج میں بڑی مدد ملتی ہے۔ وہ قصہ یہ ہے کہ ایک لڑکی کو محلہ کی لڑکیوں نے خوب سجا�ا، وہ جب زیور اور عمدہ پکڑوں سے خوب اچھی لگئی تو سہیلیوں نے بہت تعریف کی کہ مہن تم بہت اچھی لگتی ہو، اب اس حالت میں تم شوہر کے پاس جب جاؤ گی تو خوب قدر ہو گی تو وہ لڑکی رونے لگی اور کہا اے میری سہیلی اور بہنو! تمہاری ان تعریفوں سے ہم کو کچھ خوشی نہیں، جب ہمارا شوہر ہم کو دیکھ کر پسند کر لے گا اور تعریف کرے گا تو ہم کو واقعی خوشی ہو گی۔ اس واقعہ کو سن کر بعض بزرگ روتے بے ہوش ہو گئے کہ دنیا میں تو لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں مگر قیامت کے دن، ہم کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ فرمائیں گے اس کا یقین علم کوئی پس دنیا میں اپنے کو اچھا اور بزرگ سمجھنا حماقت ہے۔ اس لڑکی کی عقل سے سبق لیتا چاہئے۔ حضرت بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جاوے گا اس وقت ہم بے شک اپنی زندگی کے تمام کارناموں پر خوشیاں منا میں گے، اس سے قبل خوشی منانا اور لوگوں کی تعریف سے اپنے کو بڑا سمجھنا نادانی ہے اور عجب کا علاج یہ ہے کہ ہر کمال اور نعمت کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھے اور ڈر تار ہے کہ نہ معلوم کب اور کس وقت ہماری کسی شامت اعمال سے چھٹن جاوے۔ اللہ تعالیٰ کے استغنا اور شان بے نیازی سے ہر وقت ڈر تار ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ نیکیاں کرتا رہے اور ڈر تار ہے۔ یہی سبق حدیث شریف سے ملتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب اس آیت کا

مطلوب دریافت کیا کہ وجہت قلوبہم کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں اے صدیق کی بیٹی! بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں اور اس کے باوجود خدا سے ڈرتے ہیں کہ ان کے ان اعمال کو شاید قبول نہ کیا جائے، یہی وہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ (مشکوہ شریف) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیک اعمال کر کے داعی خراب نہ ہونا چاہیے بلکہ ڈرتا بھی رہے اور دعا بھی کرتا رہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہو جاوے اور قبول نہ ہونے کا خوف بھی رہے اور امید قبولت بھی رہے۔ ایسا خوف بھی نہ ہو کہ عدم قبولت کے خوف سے عمل ہی چھوڑ بیٹھے۔ اس لئے حق تعالیٰ شانہ نے آخر میں یہی فرمادیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ عام لوگ تو صرف گناہوں سے مغفرت مانگتے ہیں مگر خاص بندے اپنی نیکیوں کے بعد بھی استغفار کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی کبریائی اور شان عظمت کا حق ہم سے کہاں ادا ہو سکتا ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد تین بار استغفار فرمایا کرتے تھے۔ جس کی حکمت بزرگوں نے یہی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق کسی سے ادا نہیں ہو سکتا، اس لئے عارفین اپنے نیک اعمال کے بعد بھی استغفار کرتے ہیں۔

قتبییہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا کہ آدمی کا بھی چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو (یعنی کیا یہ سب تکبر ہے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جیل ہیں اور جہاں کو پسند فرماتے ہیں، تکبر تو یہ ہے کہ حق کو قبول نہ کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بعض اللہ والے جو اچھا بس پہنتے ہیں ان کے متعلق دل برانہ کرے کہ یہ تکبر والے ہیں۔ بزرگی پہاڑ کے دامن میں رہنے، جھونپڑی بنانے، سوکھی روٹی کھانے اور

موٹا کپڑا پہننے کا نام نہیں۔ اگر ایسے شخص کے دل میں دنیا ہے تو یہ بھی دنیادار ہے اور اگر دل میں دنیا نہ ہو تو پادشاہت کے ساتھ بھی حق تعالیٰ کے بندے ولی ہوئے ہیں۔

اگر مال و جاہ سست و زرع و تجارت
چو دل باخدا ایسٹ خلوت نشینی

یہ شعر شرح مشکوٰۃ شریف مظاہر حق میں درج ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر مال و عزت اور کھیتی اور تجارت کے ساتھ بھی دل اللہ کے ساتھ ہر وقت لگا ہو تو یہ شخص خلوت نشین اور اللہ والا ہے اور اگر پہاڑ کے دامن اور جنگل میں بیٹھ کر انتظار کر رہا ہے کہ کوئی شکار آؤے اور حلوا مجھے پیش کرے تو یہ مکار اور پکا دنیادار ہے۔ خلاصہ یہ کہ فقیری اور اللہ تعالیٰ کی دوستی اچھا کھانے اور اچھے لباس میں اور اپنے مکان میں بھی کسی بزرگ کی محبت سے نصیب ہو سکتی ہے بشرطیکہ اتابعِ سنت اور تقویٰ کامل کا اہتمام ہو۔

﴿ عجُبٌ پر اشکال اور جواب ﴾

اس مقام پر ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی کمال عطا فرمائیں پھر اس کمال کو کمال نہ سمجھنا شکری تونہ ہوگا۔ جواب یہ ہے کہ اس کو صفت کمال تو سمجھے لیکن اپنادتی کمال نہ سمجھے، عطیہ خداوندی سمجھ کر شکر گزار ہوا اور بجائے خنزیر کے ڈرتا رہے کہ ہماری شامت اعمال سے یہ چھن نہ جاوے۔

﴿ سالکین کی تباہی ﴾

سالکین کو شیطان اس طرح جلد تباہ کر دیتا ہے کہ شیخ اور مربی پر اعتراض دل میں ڈال دیتا ہے۔

تکبر کا حضرت حکیم الامت تھانوی

رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد فرمودہ علاج

(کمالاتِ اشرفیہ، ص: ۹۳)

- (۱) یہ سوچے کہ جو کمالات ہمارے اندر ہیں یہ میرا پیدا کیا ہو نہیں ہے حق تعالیٰ کی عطا ہے۔
- (۲) اور یہ عطا بھی کسی استحقاق اور ہماری قابلیت سے نہیں بلکہ محسن اللہ کی ہمدرانی و کرم سے عطا ہوئی ہے۔
- (۳) پھر اس نعمت کا باقی رہنا بھی ہمارے اختیار میں نہیں حق تعالیٰ جب چاہیں چھین لیں۔
- (۴) اور جس کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں گواں میں یہ کمال اس وقت نہیں مگر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں کہ اس کمال کو مجھ سے چھین کر اس کو دے دیں یا بغیر مجھ سے چھیننے ہوئے اس کو مجھ سے اس کمال میں زیادہ بلند کر دیں اور اتنا زیادہ بلند مرتبہ اس کو کرو دیں کہ میں اس کا لحاظ ہو جاؤ۔
- (۵) اگر آئندہ اس کو کمال نہ بھی حاصل ہو تو ممکن ہے کہ اس وقت ہی کوئی اس کے اندر ایسا کمال ہو جو مجھ سے مخفی ہو اور سب ہی سے مخفی ہو اور حق تعالیٰ کو معلوم ہو جس کی وجہ سے یہ حق تعالیٰ کے نزدیک مجھ سے زیادہ محظوظ اور مقبول ہو۔
- (۶) اگر کسی کمال کا احتمال بھی ذہن میں نہ آوے تو یہی سوچے کہ ممکن ہے یہ مجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا مقبول ہو اور علم الہی میں میری مقبولیت اس سے کتریا بالکل ہی نہ ہو۔ قیامت کے دن یہاں کے لئے پیدل وہاں کے سوار اور یہاں کے لئے سوار وہاں کے پیدل ہوں گے تو مجھ کو کیا حق ہے کہ اپنا انجام معلوم ہوئے بغیر میں اس کو حقیر سمجھوں۔

(۷) اور جس کی تھارت ذہن میں آوے اس پر احسان و مہربانی خوب کرے اور اس کے لئے خوب دعا کیا کرے اس طرح اس سے محبت ہو جاوے گی اور جب محبت ہو جاوے گی تو محبت کا طبعی خاصہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تحریر دل میں نہیں ہوتی۔ اس مقصد کے لئے بھی بھی ایسے آدمی کا مزاج بھی پوچھا کرے اور بات چیت کر لیا کرے اس طرح دونوں جانب سے تعلق ہو گا اور تحریر کا ماذہ محدود ہو جاوے گا۔

فرق درمیان ریا و عجب و تکبر

ریا ہمیشہ عبادات اور دینی امور میں ہوتی ہے اور عجب اور تکبر دنیا اور دین کے دونوں امور میں ہوتے ہیں پھر تکبر میں آدمی دوسرے کو تحریر سمجھتا ہے اور عجب میں وہ اپنے کو اچھا سمجھتا ہے گو دوسرے کو تحریر نہ سمجھے۔ پس! تکبر کے ساتھ عجب لازم ہے اور عجب کے ساتھ تکبر لازم نہیں۔

تفہیمیہ: البتہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جس سے شرعاً بغرض رکھنا واجب ہو تو اس سے ملتا جذنا اور محبت تو نہ کرے لیکن اپنے انعام کے خوف سے اس کو تحریر بھی نہ سمجھے کہ ممکن ہے آئندہ یہ مرنے سے پہلے توبہ کر کے آخرت بھی لے جاوے۔
حضرت روی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

یعنی کافر را بخواری منگرید کہ مسلمان بودش باشد امید
یعنی کسی کافر کو بھی ذلت و تھارت سے مت دیکھو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے مسلمان ہو کر دنیا سے جاوے۔ البتہ اس سے قلب میں بغرض رکھیں گے۔
نفرت اور بغرض کے ساتھ دل میں تھارت کا نہ ہونا دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں
جیسے کوئی حسین شاہزادہ چہرہ پر سیاہی لگا کر چہرہ کالا کر لے تو اس کے چہرے کی سیاہی سے تو نفرت ہو گی مگر شاہزادے کو تحریر نہ سمجھیں گے کیونکہ ممکن ہے کہ یہ اپنا

چہرہ صابن سے دھوکر پھر صاف تھرا چاند جیسا کر لے۔ سبحان اللہ! حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے کیے مشکل مسائل کو مثالوں سے حل فرمادیا اور خلاصہ اس کا یہ فرمایا کہ بھائی معاصری سے نفرت ہو مگر عاصی سے نفرت نہ ہو جیسے مرض سے ہر آدمی گھبرا تا ہے مگر مریض پر شفقت اور رحمت بھی ضروری سمجھتا ہے۔

خلجت اور تکبر کا فرق

خلجت ایک طبعی انقباض ہے جو خلاف عادت کام کرنے سے یا حالت پیش آنے سے نفس پر واپر ہوتا ہے اور ساکن کو بعض اوقات غایت احتیاط کے سبب اس پر شبہ تکبر کا ہوتا ہے مگر واقعیت تکبر نہیں ہوتا ہے اور معیار اس کا یہ ہے کہ جس طرح یہ شخص ایک خیس اور ذلیل کام سے شرماتا ہے اگر کوئی شخص اس کی بہت زیادہ اکرام اور تعظیم کرے تو بھی اس کو اسی طرح کا انقباض ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر ہوتا ہے تو خلجم ورنہ تکبر ہے۔ پس نفس کی تاویل سے ہوشیار ہے کہ یہ تکبر کو بھی خلجم میں نہ شامل کر لے۔ تفصیلی علاج اپنے شیخ اور مرتبی سے دریافت کرے۔

تواضع میں تکبر

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بھی تکبر بصورت تواضع ہوتا ہے یعنی تواضع اس لئے کرتا ہے کہ لوگ ہم کو بڑا سمجھیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ تواضع کے بعد اگر لوگ اس کی عزت اور تعظیم نہ کریں تو بر امانتا ہے اور اصلی اللہ والے اپنے کو تعظیم کا مستحق نہیں سمجھتے۔

حسد کی بیماری اور اس کا علاج

کسی شخص کی اچھی حالت یا کوئی نعمت ناگوار معلوم ہونا اور دل میں یہ آرزو کرنا کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جاوے یہ بھی بیماری خطرناک ہے۔ اس بیماری

سے آدمی کا سکون چھپن جاتا ہے اور دل جلتا رہتا ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ جد حاسد کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حد پر دو شعر کیا خوب بیان فرمائے ہیں۔

حد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو
کفِ افسوس تم کیوں مل رہے ہو
خدا کے فیصلے سے کیوں ہوتا راض
جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو

حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی دوست یادگار کے زوال نہت سے اگر اندر سے دل خوش ہو تو اگرچہ بظاہر اس سے اظہار افسوس بھی کیا جاوے اور چونکہ اندر کی خوشی غیر اختیاری ہونے سے گناہ بھی نہیں لیکن یہ حالت نفس کی علامت ہے۔ اس کا علاج بتکلف کرے، اس طرح کہ اس شخص کے لیے خوب دعا کیا کرے۔ بکثرت ایسا کرنے سے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ نفس زائل ہو جاوے گا۔ (کمالات اشرفیہ، ماقوظ ۲۵۰)

حد کا علاج

حد کا علاج یہ ہے کہ جس شخص پر حد ہو؛

(۱) اس سے سلام میں سبقت کرے۔

(۲) سفر پر جاوے تو اس سے ملاقات کر کے جاوے۔

(۳) سفر سے آؤے تو اس کے لیے کوئی ہدیہ لاوے خواہ مختصر قسم کا ہو۔

(۴) کبھی کبھی ناشتہ کی دعوت کر دے۔

(۵) اپنی مجلس میں اس کی تعریف کرے۔

(۶) اس کے لیے خوب دعا کیا کرے۔

(۷) اس کی کوئی برائی کرے تو سختی سے منع کر دے اور غیبت سنانے اور سننے دونوں کے حرام ہونے کا مسئلہ اس کو بتا دے۔ ان شاء اللہ چند دن اس طریق پر عمل کرنے سے یہ بیماری شفایا پاتی ہے اور پھر اس سے جلنے کے بجائے اس کی محبت معلوم ہوگی اور دل گلب کے پھول کی طرح ہلکا ہلکا ہو جاوے گا اور حق تعالیٰ کی عبادت و ذکر کے لیے فارغ اور پر سکون ہو گا۔

کینہ اور اس کا علاج

جس مسلمان سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے اور اس سے بدلہ لینے کی ہمت نہیں ہوتی تو اس کی طرف سے دل میں ہلکا سا غصہ رہتا ہے اور غصہ ضبط کرنے سے دل پر ایک بو جھ رہتا ہے اور قصد اس کی بد خواہی چاہتا ہے تو اس کو حق یعنی کینہ (بعض) کہتے ہیں۔ علاج یہ ہے کہ اس کو معاف کر دے اور بہ تکلف اس سے میل جوں شروع کر دے۔ باقی اصلاً اس کا علاج بھی وہی ہے جو اور پر حسد کا بیان ہوا۔

حرص اور دنیا کی محبت کا علاج

اس کا سب سے عمده علاج یہ ہے کہ بزرگوں کی مجالس میں حاضری دیا کرے اور ان سے تعلق مع اللہ کا طریقہ معلوم کرے۔ جب دل میں اللہ تعالیٰ کا تعلق راخ ہو جاوے گا دنیا کی طرف سے قلب خود ہی بے رغبت ہو جاوے گا۔ صرف ذکر اللہ اور صحبت اہل اللہ اس بیماری کو دور کر سکتی ہے اور دنیا کی بے شباتی اور موت کو کثرت سے سوچنا بھی اکسیر ہے اور ان اشعار کو کثرت سے پڑھنا بھی دل کو دنیا کی محبت سے پاک کرتا ہے۔

دبا کے قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام

ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو

* * * * *

کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا

معطر کفن تھا مٹھیں بدن تھا

جو قبر کہن ان کی اکھری تو دیکھا

نہ عضو بدن تھا نہ تار کفن تھا

* * * * *

یہ چمن سحرابھی ہو گا یہ خیر بیل کو دو

تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کے قربان کرے

* * * * *

اکر قضا یا ہوش کو بے ہوش کر گئی

ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی

* * * * *

قضايا کے سامنے بے کار ہوتے ہیں حواس اکبر

ٹھلی ہوتی ہیں گواہ کھیں مگر بینا نہیں ہوتیں

* * * * *

قضايا کے بعد ہوئی سرد نفس کی دنیا

نہ حسن و عشق کے جھٹکے نہ مال و دولت کے

* * * * *

کبھی کبھی قبرستان جا کر دنیا داروں کے حشر و انجام کو آنکھوں سے مشاہدہ کرے

کہ اب ان کے بنگلے اور کار اور دولت اور ملازمت میں کجاں ہیں۔ اب صرف ان

کے اچھے اعمال ہی کام آسکتے ہیں۔

شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ

اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم

جس طرح ایک قیدی دوسرے قیدی کو نہیں چھڑا سکتا۔ چھڑانے والا باہر
سے آتا ہے اسی طرح دنیا دار کو دنیا دار دنیا کی محبت اور قید سے آزادی نہیں دلا
سکتا۔ اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے جو بظاہر دنیا میں ہیں مگر اپنی
روح کے مقام میں وہ دنیا سے باہر ہیں۔ میرا شعر ہے۔
دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باغدا رہے
یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے

بے جا غصہ اور اس کا علاج

غصے میں عقل درست نہیں رہتی اور انجمام سوچنے کا ہوش نہیں رہتا، اس لیے
زبان سے نامناسب بات اور ہاتھ سے زیادتی اور ظلم ہو جاتا ہے اور کبھی غصے میں
تمن طلاق دے کر زندگی بھر رونا پڑتا ہے اور کبھی غصے میں بے اندازہ مار پیٹ سے
قلل و بہاکت تک کا جرم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کتنے گھروں کے اور خاندان
کے خاندان کے چراغ ہمیشہ کے لیے بچھ جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں وارد
ہے کہ غصہ شیطان کی جانب سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ کا
علاج پانی ہے پس جب غصہ آؤے وضو کر لیا کرے۔

علاج اس کا یہ ہے کہ جس پر غصہ آؤے اس کو اپنے سامنے سے ہٹاوے،
اگر وہ نہ ہے تو خود بہت جاوے، پھر سوچ کر جس قدر اس شخص نے ہمارا قصور کیا
اور ہمارا حق مارا اور ہماری نافرمانی کی اس سے زیادہ ہم رات دن اللہ تعالیٰ کی
نافرمانی کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں قصور وار ہیں، اس کے باوجود
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور انعامات ہم سے نہیں چھینتے اور جس طرح ہم چاہتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ ہمارا قصور معاف فرمادیں اسی طرح ہم کو چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ
کے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دیں۔ جس قدر قیامت کے دن اپنی خطاؤں میں

معاف کرنی ہوں اتنا ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خطا میں معاف کرتا رہے اور ان پر احسان بھی کرتا رہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اس طرح سونپنے سے دل بلکہ ہونا شروع ہو جائے گا اور زبان سے اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کئی بار پڑھے اور وضو کر لے اور ختمہ پانی پی لے۔ کھڑا ہو تو بیٹھ جاوے، بیٹھا ہو تو لیٹ جاوے اور اللہ تعالیٰ کے غصب کو یاد کرے۔ جب غصہ بلکہ ہو جاوے اور عقل درست ہو جاوے تو جو مناسب سزا ہو جو یز کرے، جیسے اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے غصہ کرنا ہے تو جب غصہ جاتا رہے تو خوب سوچ سمجھ کر شریعت سے جتنی اجازت ہوتی سزادیں۔ اس طرح بار بار کرنے سے غصے کی اصلاح ہو جاوے گی۔

غضہ نہ روکنے کا ایک عبر تنک واقعہ

غضہ کار و کناؤ نفس پر بوجہ معلوم ہو گا مگر اس کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے اور دشمن بھی دوست بن جاتا ہے اور غصہ کرنے سے دوست بھی دشمن بن جاتے ہیں اور انسان آہستہ آہستہ اس بد اخلاقی سے بے یار و مددگار ہو جاتا ہے حتیٰ کہ ایک صاحب جو بہت بد مزانج اور غصہ سے پڑو سیوں کو تنگ کیا کرتے تھے جب ان کی بیوی کا انتقال ہوا تو جنازہ اٹھانے کے لیے مزدوروں کو اجرت پر لانا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلو ان وہ نہیں جو کشتی میں گراوے بلکہ بڑا پہلو ان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔

اللہ تعالیٰ نے غصہ پینے والوں اور لوگوں کی خطاوں کو معاف کرنے والوں اور ان پر احسان کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے اور اپنے نقصان مالی کے بارے میں یوں سوچے کہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے اور صبر پر اجر ملتا ہے۔ انا لله و انا الیہ راجعون پڑھنے سے ایسے موقع پر اس سے بہتر نعمت عطا ہو جانے کا وعدہ ہے اور یہ سوچے کہ انتقام لینے سے اجر و ثواب بھی ہاتھ سے

جاوے گا اور ہم کو کیا نفع ملے گا اور اگر غصہ میں انتقام لیتے وقت اس پر ظلم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور سزا کا عذاب الگ بھلنا پڑے گا۔

حکایت ۱ | ایک بزرگ حضرت بائزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے کہ کسی دشمن نے ان کے سر پر راکھ کا ٹوکرہ پھینکا۔ حضرت نے فرمایا الحمد للہ۔ مریدوں نے کہا حضرت یہ الحمد للہ کا کیا موقع ہے؟ فرمایا جو سرسر کشی کے سبب آگ بر سے کے قابل تھا اس پر راکھ برسی تو شکر کیوں نہ ادا کروں۔

حکایت ۲ | حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دو آدمی لڑ رہے تھے۔ ایک نے کہا ایک گالی دے گا تو میں دس گالی دوں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے ایک ہزار گالیاں دے لو، مجھ سے ایک گالی بھی نہ سنو گے۔ دونوں نے آپ کے قدم کو بوسہ دیا اور صلح کر لی۔

حکایت ۳ | حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خادم کو ڈائش۔ اس نے معافی مانگ لی۔ فرمایا تو ہمیشہ اسی طرح ستاترہتا ہے، آخر کب تیرا یہ معاملہ بھلگتا کروں؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ قریب بیٹھے تھے، کان میں فرمایا کہ مولانا جتنا پنچاں اللہ تعالیٰ سے بھلتوتا ہے اتنا یہاں ان کے بندوں کی بھگت لو یعنی وہاں اپنی خطائیں جس قدر معاف کرانی ہیں یہاں اتنی لوگوں کی خطائیں معاف کرتے رہو۔

غضہ کے علاج کا بہترین مؤثر مراقبہ

جب غصہ بہت تیز غالب ہو فوراً سوچے اگر ہم اس وقت اس پر غصہ روک لیں گے اور معاف کر دیں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اوپر سے اپنا عذاب روک لیں گے۔ یہ بشارت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حدیث سے ثابت ہے۔

بدنگاہی، سینے کی خیانت اور حسن پرستی

برے اخلاق میں یہ بیماری بھی نہایت خطرناک ہے، اس کا خطرہ شروع میں محسوس نہیں ہوتا، شروع میں تو آدمی سمجھتا ہے کہ حسینوں سے دل بہلا رہا ہوں، نہ اس سے کچھ لے رہا ہوں، نہ اپنا کچھ دے رہا ہوں، لیکن یہ خیالِ محض دھوکہ ہے کیونکہ بد نگاہی اور دل کے گندے خیالات سے صرف دل ہی نہیں بہلتا میں بھی پکھل جاتی ہے، صحتِ خراب ہونے لگتی ہے اور عبادت کی حلاوت سلب ہو جاتی ہے، اُسے ذکر اور عبارت میں لطف نہیں آتا اور بعض واقعات تو ایسے خطرناک ہیں کہ خدا ہی بچائے۔ نگاہ کی خرابی سے کسی حسین کی محبت دل میں اس طرح اتر گئی کہ جب توبہ کے لیے کہا گیا تو اس نے کہا کہ میں سب گناہ سے توبہ کرتا ہوں مگر اپنے محبوب کے عشق سے توبہ نہیں کروں گا اور جب کلمہ پڑھایا گیا تو کہا کہ مجھے اُس محبوب کی خوشی خدا کی رضا سے زیادہ محبوب اور عزیز تر ہے (معاذ اللہ) اور اس طرح کفر پر خاتمہ ہو گیا۔

اسکلین کوشیطان نہیں دو بیماریوں میں جتنا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، ایک عورت کے جال میں، دوسرے خوبصورت لڑکے کے عشق میں۔

تفصیلیہ: بعض وقت شیطان نگاہوں پر ایسا سمریز کرتا ہے کہ معمولی صورت بھی بہت زیادہ حسین معلوم ہوتی ہے اور اس کی ہر نظر میں سینکڑوں تیر اور صدہا کمان پوشیدہ معلوم ہوتے ہیں۔ مولا ناروی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حالت کا نام تمومیہ رکھا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک حالت ہے۔ حضرت حکیم الامم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام کی تشریح کرتے وقت تحریر فرمایا کہ اے اللہ! اس حالت سے اشرف علی کی حفاظت فرم اور تحریر فرمایا کہ جب اس حالت سے نجات حق تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرمادیتے ہیں تو اس حالت کا نام تنبیہ ہے۔ حیرت ہے کہ بعض

نادان لوگ ان باتوں کو گناہ نہیں سمجھتے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے اور عورتوں اور لڑکوں کو بری نظر سے گھورتے بھی رہتے ہیں، حالانکہ شریعت میں یہ دونوں افعال حرام اور گناہ کبیرہ ہیں اور ان پر اصرار اور دوام سے عمل کرنے والا فاسق و فاجر ہے۔ ایسے شخص کو قرب خداوندی کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی، حسن پرستی اور بد نگاہی صحیت جسمانی اور صحیت روحانی دونوں کو تباہ کر دیتی ہے اور دنیا و آخرت میں ذلیل کر دیتی ہے۔ اگر کسی کو زمانہ تعلیم میں یہ بیماری لگ جائے تو دل و دماغ اور قوتِ حافظہ کو کمزور کر کے علم سے دل کو اچاٹ کر دیتی ہے اور علم دین کے طالب علم کو تقویٰ اور علم کی برکتوں سے محروم کر کے ہمیشہ کے لیے کمالات اور ترقیات علمیہ اور عملیہ سے محروم کر دیتی ہے۔ پس اس بیماری کا علاج بہت فکر، اہتمام اور ہمت سے کرنا چاہیے، اس زہر کو شہد نہ سمجھے اور ہلاکت کے اس سبب کو فرحت اور دل بہلانے کا ذریعہ ہرگز نہ سمجھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو غضن بصر (نگاہ کی حفاظت) کا حکم دیا ہے تو اس فعل میں کوئی نفع اور بھلائی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بندوں کا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ بد نگاہی اور حسن پرستی نہایت خطرناک بیماری ہے جو دنیا اور دین دونوں کو تباہ کر ڈالتی ہے۔ اس مختصر رسالہ میں تفصیل کی گنجائش نہیں۔ اگر ان کی تباہ کاریوں کی تفصیلات کا مطالعہ کرنا ہے تو احقر کی کتاب ”روح کی بیماریاں اور ان کا علاج“ دیکھئے۔

بد نگاہی اور حسن پرستی کا علاج

یہ بیماری ہر شخص میں اس کے مزاج طبی کے لحاظ سے کسی میں شدید اور کسی میں اشد ہوتی ہے۔ بعض تو ہوش سنبھالتے ہی اس بیماری میں بیٹلا ہو جاتے ہیں۔

بچوں کی اصلاح

اللَّهُذَا وَالدِّينَ كُو بچپن ہی سے اپنی اولاد کو اس بیماری سے بچانے کا اہتمام کرنا
چاہیے ورنہ بچپن خراب ہونے سے پھر علمی دولت سے محرومی لازمی ہو جاتی ہے۔
کم عمری میں پوری نگرانی ہو اور سینماٹی وی نیز غلط فہم کے لوگوں سے دور رکھتے
ہوئے خدا کا خوف، دوزخ کا عذاب بتایا جائے اور بھی بھی بزرگوں کی مجالس
میں بھی لے جائے اور اپنے کم عمر بچوں کو جہاں تک ممکن ہو اپنی نگرانی سے دور نہ
کریں اور کم عمری میں ان کو چھوڑ کر بدلون سخت ضرورت پر وہنیں ممالک کے سفر
سے بھی احتیاط کریں ورنہ باپ کی دوری سے بچے بہت جلد آزاد ہو جاتے ہیں اور
ماں کی تربیت سے بے قابو ہو کر آوارہ ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی اولاد
کے نیک ہونے کی خوبی الحاج سے دعا کرتے رہیں اور یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد
پڑھ لیا کریں، **رَبَّنَا هُبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاحِنَا وَ ذُرِّيَّاتِنَا**
فُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَقِّيِّينَ إِمَاماً

اور بچوں کو مختلف جائز اور مباح کاموں میں مصروف رکھا جائے، مصروف زندگی
شیطانی چکروں سے اکثر حفظ رہتی ہے۔

بالغین کی اصلاح

(۱) کچھ ذکر اللہ کا معمول بتایا جائے، کوئی بزرگ بستی میں ہوں ان سے مشورہ
کر لیں ورنہ درود شریف تین سو مرتبہ، لا الہ الا اللہ سو مرتبہ اور سو مرتبہ اللہ کر لیا
کریں۔ تلاوت قرآن پاک اور اشراق و اوایم اور تہجید کا معمول بھی کر لیں۔
اگر آخربش آنکھ نہ کھلے تو بعد نماز عشاء و تر سے قبل دو یا چار رکعتاں نفل پر نیت
تہجد پڑھ لیا کریں۔ ذکر و تلاوت اور نوافل کے اہتمام سے قلب میں نور پیدا ہو گا۔
تو رحم تا شہوت کو خشتدا کرتا ہے۔ مولا ناروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواہشات

نفس کی آگ اللہ تعالیٰ کا نور ہی ٹھنڈا کرتا ہے۔

تنبیہ: ایک ضروری تنبیہ یہ ہے کہ بعض لوگ گناہ کے تقاضے پر عمل کر کے اس تقاضے کو مکروہ کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ گناہ کر لینے سے یہ تقاضا اور خواہش کم ہو جائے گی، یہ سخت دھوکہ ہے، ہر گناہ سے گناہ کی خواہش اور تیز ہو جاتی ہے، صرف تھوڑی دیر کو کی ہوتی ہے، پھر پہلے سے بھی زیادہ آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ گناہ کو گناہ سے کم کرنے کا خیال ایسا ہے جیسا پاخانہ کو پیشتاب سے دھوکر آدمی سمجھے کہ پاخانہ کی گندگی کم ہو جائے گی۔ ایسے لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اور کبھی پاک نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمت کر کے گناہ کے تقاضے پر عمل نہ کریں۔ اگر کبھی مغلوبیت ہو اور نگاہ خراب ہو جائے تو کم از کم ۲۳ رکعت نفل اور کچھ صدقہ و خیرات کریں اور خوب الحاج سے توبہ کریں۔

(۲) جب طبیعت میں گناہوں کا تقاضا ہو فوراً ہمت سے کام لیں اور خوب دعا کریں ۲۴ رکعت نمازِ حاجت پڑھ کر حق تعالیٰ سے خوب پناہ مانگیں اور اچھے کاموں میں یا مباح اور جائز کاموں میں معروف ہو جائیں یا کسی اچھے دوست سے ملاقات کر کے دل کو بہلا لیں یا یہ بھی بچوں کے لیے سودا اور ضروری کاموں میں لگ جائیں، اس طرح نفس کا دھیان اور خیال کی تیزی اور میلان مکروہ رہو کر مغلوب ہوتے ہوتے کالعدم ہو جائے گا۔ یہ نسخہ بڑا ہی کام کا ہے۔ اس کو حضرت خواجه صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نظم بھی کر دیا ہے اور سب حضرت حکیم الامت کے ارشادات ہیں۔

طبیعت کی تزویز پر ہے تو رُک
نہیں تو یہ سر سے گذر جائے گی
ذرا دیر کو ٹوٹا لے خیال
چھپی ہے یہ ندی اُتر جائے گی

(۳) اس مجاہدے سے گھبرا نا شے چاہیے، اپنی طرف سے تمام عمر یہ غم برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، عاشقی اسی کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تلوار کے نیچے اپنی ہر خواہشِ نفسانی کی گروں رکھ دے اور نفس کو گناہ نہ کرنے سے اور آنکھوں کی حفاظت سے جو بھی تکلیف ہو خوشی خوشی برداشت کرے۔ یہ جہاد اکبر کا شہید ہے، اگر چہ زندہ ہے مگر باطن میں اس کی شہادت کا بازارِ گرم ہے۔

ترے حکم کی تشقی سے میں ہوں تکل

شہادت نہیں میری منونِ خبیر

ایک مرتبہ کافر کی تلوار سے شہید ہونا آسان ہے مگر اس جہاد اکبر سے نفس کو تمام عمر اپنی بری خواہشات پر حکمِ الہی کی تلوارِ کھانی پڑتی ہے۔

کمالِ عشق تو مرمر کے جینا ہے نہ مر جانا

ابھی اس راز سے واقف نہیں ہیں ہائے پروانے

(۴) اس پیاری کا مکمل علاج کسی اللہ والے کی نگرانی میں کرنا چاہیے۔ مرشد کامل جو متین سنت، مقتني اور کسی کامل کی طرف سے مجازِ بیعت بھی ہو، ایسے مریضوں کو ان کی صحبت میں کچھ دن رہ پڑنا چاہیے، یہاں تک کہ دل کو حق تعالیٰ کا خاص تعلق عطا ہو جائے جس کو نسبتِ باطنی کہتے ہیں۔ تعلقِ مع اللہ نصیب ہو جانے سے سالک کو حفاظتِ نفس میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔

(۵) جملہ معاصری سے احتیاط کے لیے حضرت حکیم الامت مخانوی رحمۃ اللہ علیہ

نے دو جملوں کا ایک نسخہ بیان فرمایا ہے۔

✿ معصیت ہونے سے پہلے تو پوری ہمت سے نفس کو روکے۔

✿ اور اگر شامتِ نفس سے خطا ہو جائے تو یہ دل سے تو بہ کرے۔

(۶) الماح وزاری کے ساتھ دعا سے بارگاہِ حق میں اپنی حفاظت کی درخواست

کرتا رہے اور بجدہ کی جگہ کو اپنے آنسوؤں سے ترکرتا رہے۔ اگر آنسو نہ لکھیں تو رونے والوں کی شکل ہی بنالیا کریں۔ دعا بڑی نعمت ہے اور حق تعالیٰ کے فضل اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل ہی سے بندہ گناہ سے محفوظ ہو سکتا ہے اور احکامات کو بجا لاسکتا ہے۔ حضرت روی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے خدا! اگر گناہوں کے ہزاروں جاں یعنی اسباب ہمارے قدموں کے سامنے ہوں لیکن اگر آپ کا فضل ہماری مدد کے لیے ہمارے ساتھ ہے تو ہم کو کچھ غم نہیں اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ نہ ہونے سے ہرن کاشکار کرنے والے خود جنگلی سور کے منہ میں شکار ہو گئے۔ اس لیے کبھی اپنے تقویٰ اور پرہیز گاری پر نماز نہ کرے، ہر وقت ڈرتا رہے اور حق تعالیٰ سے حفاظت کے لیے فریاد و نالہ اور آہ و زاری کرتا رہے، اپنے زور پر کچھ نظر نہ رکھے، اپنی کامیابی کو زاری پر موقوف کجھے، اگر حق تعالیٰ اپنا الطف و کرم اور اپنی مدد بھائیے تو تباہی اور شیر جیسا مضبوط دین دار پھسل کرتا ہے وہ جائے اور اگر حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم کو ہمارے ساتھ ہمارا نگہبان اور غم خوار بنا دیں تو پھر مجھر جیسا کمزور سالک و دیندار بھی منزل قرب کے اعلیٰ مقام پر فائز اور گامزن ہو جائے اور بڑے بڑے نفس و شیطان کے مکروہ پیر کے جانور اس کی بہت کے شیر کے سامنے ایسے بھاگتے نظر آئیں گے جیسا کہ آپ نے کسی جنگل میں شیر کے سامنے ہرن اور چیزوں اور بارہ سنگھوں جیسے تمام بڑے بڑے سینگھوں والے جانوروں کو بے تحاشہ بھاگتے ہوئے دیکھا ہوگا۔

(۷) اس بیماری میں شیطان مایوسی کا جملہ بہت کرتا ہے یعنی جب سالک ایک زمانہ ذکر و فکر اور صحبتِ اہل اللہ کے باوجود بھی نفس کے اندر برے برے تقاضوں کو محسوس کرتا ہے تو سوچنے لگتا ہے کہ اس راہ میں ہمارا گذر نہیں، حالانکہ اس راہ میں ایسوں ہی کا گذر رہے، یہ بیجوں کا راستہ نہیں ہے، یہ مردوں ہی کا راستہ ہے،

نافرمانی کے تقاضوں کو روکنے ہی کا نام تقویٰ ہے، اگر یہ تقاضے نہ ہوں گے تو
تقویٰ کا وجود کیسے ہو گا؟ لہذا تمام عمر مجاہد سے نہ گھرنا چاہیے لیکن یہ مجاہدہ آہستہ
آہستہ آسان ہوتا جائے گا لیکن اگر بد پر ہیزی یعنی بدنگاہی سے یہ تقاضے شدید
ہو کر پریشانی کا باعث ہوں تو یہ آپ ہی کا قصور ہے، راستہ تو مشکل نہیں تھا، آپ
نے مشکل بنالیا۔ بہرحال کسی حال میں بھی ہمت نہ ہارے۔ خواجہ صاحب نے
خوب فرمایا ہے۔

نہ چت کر کے نفس کے پہلوان کو
تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے
اڑے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی
کبھی وہ دبائے کبھی ٹوٹ دبائے

کبھی شیطان اس طرح بھی نا امید کرتا ہے کہ تجھے جیسے بار بار توبہ توڑنے والے کو
کیا انعام و قرب الہی ملے گا؟ تجھے جیسے نالائقوں کو اس دربارِ عالی سے محروم ہی
رہے گی، یہ تو پا کیا زوں کا راستہ ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ بے شک توبہ توڑنا
بہت بڑا گناہ ہے لیکن ہمارے لیے کوئی اور بارگاہ، کوئی اور خدا بھی تو نہیں ہے
چہاں ہم چلے جائیں، سوائے حق تعالیٰ کے ہمارا کوئی اور مٹھکانہ بھی تو نہیں ہے۔
اگر وہ صرف پا کیا زوں کا راب ہے تو ہم گنہگاروں کا کیا کوئی دوسرا راب ہے جس
کو ہم پکاریں، ہم بھی انہی کے ہیں، معافی اور گریدوز اری کر کے ہم ان کو راضی
کریں گے۔

حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ توبہ کرنے والے
اگر کاملین میں نہ اٹھائے جائیں گے تو تائین میں ان شاء اللہ ضرور اٹھائے
جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے اے اللہ! آپ کی عطا کوئی چیزوں کی
کشتی، پھر مایوسی کی کیا بات ہے؟ پس حق تعالیٰ کی رحمت سے فریاد کرتا ہے، جو

کچھ ملتا ہے خدا کے فضل ہی سے ملتا ہے، یہ تقریر صرف نامیدی سے بچانے کے لیے ہے نہ کہ معاصی پر دلیری اور بے باکی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے تو ایسے ڈرنا چاہیے جیسے سانپ اور بچھو سے ڈرتے ہیں۔ اپنی اصلاح کے لیے خود بھی الحاج سے دعا کرتا رہے اور اپنے احباب اور اکابر سے بھی دعا کرتا رہے بالخصوص اپنے دینی مرتبی اور شرخ سے بار بار دعا کے لیے درخواست کرتا رہے۔

بس ہے اپنا ایک نالہ بھی اگر پہنچ وہاں

گرچہ کرتے ہیں بہت سے نالہ و فریاد و ہم

مراد یہ ہے کہ ایک نالہ یا ایک فریاد بھی جس دن قبول ہو گئی کام بن جائے گا ورنہ ہر دعا اور نالہ وہاں تک پہنچتا ہے، یہاں پہنچنے سے مراد قبول ہونے کے ہیں۔ (۸) اور سب سے موثر اور کامیاب علاج یہ ہے کہ کسی مصلح سے تعلق قائم کرے اور اپنی اصلاح سے متعلق تمام حالات کی انہیں اطلاع کرے اور جو مشورہ و تجویز کریں دل و جان سے اس پر عمل کرے۔

بدگمانی کی بیماری اور اس کا علاج

اس بیماری سے مسلمانوں میں عداوت، نفرت، دوسروں کو تحریر سمجھنا، حقارت، حسد اور غیبت کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ جب کسی کی طرف سے برآگان آئے فوراً یہ خیال کرے کہ بدگمانی پر قیامت کے دن دلیل اور گواہی پیش کرنی ہو گی اور ہمارے پاس یقینی دلیل اور گواہی موجود نہیں تو کیوں جھگڑے میں پڑیں؟ کیوں نہ ہم نیک گمان رکھیں تاکہ بلا دلیل اور بلا گواہی ہم کو ثواب ملتا رہے۔ جو لوگ ادھر کی بات ادھر لگاتے رہتے ہیں اور مسلمانوں میں نفرت و عداوت پیدا کرتے ہیں ان کو چغل خور کہتے ہیں۔ چغل خور کا علاج یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس شخص کے پاس پہنچا دے اور اس سے دریافت کرے کہ یہ آپ کے بارے

میں یہ بات مجھ سے نقل کرتا ہے اگر جھوٹا نکلا تو پھر کبھی چغلی نہ کرے گا اور اگر چجا نکلا تو وہ شخص شرمende ہو کر مغفرت کرے گا اور اس طرح پھر کبھی چغلی کھانے کی ہمت نہ ہوگی۔

زبان کی بیس آفتوں کا بیان

- (۱) بے فائدہ کلام کرنا۔ (۲) ضرورت سے زائد کلام کرنا۔ (۳) نافرمان لوگوں کے اور ظالموں کے بے ہودہ قصوں کو بیان کرنا۔ (۴) بحث مباحثہ کرنا۔ (۵) لڑائی جھگڑا کرنا۔ (۶) کلام میں بنادٹ کرنا جس کو قصعہ کہتے ہیں۔ (۷) گالیاں پکنا۔ (۸) بذبائی کرنا اور بڑوں کے ساتھ بد تیزی کے کلمات نکالنا۔ (۹) لعنت کرنا، یہ عادت محو رتوں میں بہت ہے۔ (۱۰) گانا اور خلاف شرع اشعار پڑھنا۔ (۱۱) حد سے زیادہ لہجی نداق کرنا۔ (۱۲) کسی کے بارے میں ایسی بات کرنا جس سے اس کی تحقیر ہو۔ (۱۳) کسی کاراز ظاہر کرنا۔ (۱۴) جھوٹا وعدہ کرنا۔ (۱۵) جھوٹ بولنا۔ البتہ دو مسلمانوں میں صلح کروانے یا مظلوم کو اپنا حق لینے کے لیے جائز ہے۔ (۱۶) غیبت کرنا، یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی بات اس طرح کرنا کہ اگر وہ موجود ہو تو برآمانے خواہ بات سمجھی ہو۔ یہ غل حرام ہے اور اس کی نیکیاں قیامت کے دن چھین کر اس کو دے دی جائیں گی۔ (۱۷) چغل خوری کرنا۔ (۱۸) کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنا یا خوشامد کرنا البتہ اگر اس تعریف سے اس کے اندر رہائی آجائے کا خوف نہ ہو بلکہ اس کا نیک کام کے لیے حوصلہ بڑھ جاوے تو مضائقہ نہیں۔ (۱۹) بول چال میں پاریک غلطیوں کا خیال نہ رکھنا امثالًا اکٹر لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ حضرت آپ کے منہ سے جو دعا نکل جاوے گی وہ ضرور قبول ہو جاوے گی یا اور اوپر خدا اور نیچے آپ ہمارا سہارا ہیں یہ سب باقی شرک کی ہیں۔ (۲۰) عوام کا علماء سے ایسے سوالات کرنا جو ان کی اپنی ضرورت سے تعلق نہ رکھتا ہو یعنی فضول،

بے ضرورت سوالات سے ان کا وقت ضائع کرنا۔

علاج: زبان کی سب بیماریوں کا علاج یہ ہے کہ جب بولے یہ سوچ کر بولے کہ جو بات کرنا چاہتا ہوں ہمارا رب اور ہمارا مالک اس بات سے خوش ہو گا یا ناخوش ہو گا۔ اگر خوش ہونے کا دل میں جواب آئے تو بات کرے اور اگر ناخوش ہونے کا اندیشہ آئے خاموش رہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدون سوچے بات مت کرو اگر چدیر تک خاموش رہنا پڑے تو اس میں کیا غم ہے کہ دیر تک خاموشی کے بعد مفید بات کرو۔

حکایت: سخت زمانہ قحط تھا کہ اچانک خوب بارش ہو گئی۔ ایک بزرگ نے کہا کہ واہ! آج تو اللہ میاں نے بڑے موقع سے بارش فرمائی، الہام ہوا اور بے ادب! کیا ہم نے کبھی بے موقع بھی بارش کی ہے؟ پس ان پر گریہ طاری ہو گیا اور ندامت سے توبہ کی۔ زبان کی احتیاط بہت رکھنی چاہیے۔

ریاضتی دکھاو اور اس کا علاج

نیک کام لوگوں کو دکھانے کی غرض سے کرنا اور لوگوں میں واہ واہ اور جاہ و تعریف کرنا دکھاوا ہے۔ اس کو ریاضتی کہتے ہیں قیامت کے دن ایسے نیک اعمال پر جو ریاضتی کیے کے گئے تھے جائے ثواب کے لاثا عذاب دوزخ کا ہے۔ البتہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو مغفرت کی امید ہے۔

یہ دکھاو اکٹی طرح کا ہوتا ہے۔ کبھی زبان سے کہ آج ہم نے اتنا قرآن پڑھا اور آج ہم نے اتنی خیرات کی ہے اور ہم رات کو اٹھنے تھے اور اتنی رکعت تجدید پڑھی ہیں۔ اس لیے آج دماغ پر تھکن ہے یا کبھی یوں کہے کہ دوسرا سے جو میں جو وہاں سے ہم شیع لائے وہ آپ کو بدل دیے دے رہے ہیں۔ اس طرح صرف ایک جملہ میں دونوں حکم کا ثواب ضائع ہو گیا اور کبھی زبان سے کچھ نہیں کہتا مگر آدمیوں کے

سامنے آنکھ بند کر کے سر جھکا کر بیٹھ گئے تاکہ سب کو معلوم ہو کہ یہ بڑے اللہ والے ہیں اور عرش پر رہتے ہیں دنیا سے برائے نام تعلق ہے حالانکہ سر اپا فرش پر دھرے ہیں یا آنکھوں کو اس طرح دکھانا کہ معلوم ہو کہ رات بھر کے جا گے ہیں، نیند کا غالبہ ہے یا رکوع سجدہ نے نوافل میں جس طرح بیٹھ رکوع سجدہ کیا کرتا ہے کسی کی موجودگی میں اس کی نسبت رکوع سجدہ کو لمبا کرو دینا کہ دیکھنے والا سمجھے کہ بڑے صوفی ہیں، یہ سب بیماری حب جاد سے پیدا ہوتی ہے۔ مخلوق کی نظر میں عزت چاہنے کی حرص سے ریا کا مرض ہوتا ہے۔

علاج دیبا: علاج اس کا یہ ہے کہ یہ سوچ کہ جس مخلوق کو اپنی نیکی دکھا کر عزت اور نام چاہتے ہو، نہ یہ مخلوق ہو گی تھام ہوں گے، سب قبروں میں خاک ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہی کی رضا اور خوشنودی کا م آئے گی۔ مرقاۃ شرح مشکوہ میں طالعی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب زیدہ خاتون الہیہ ہارون الرشید خلیفہ بغداد کا انتقال ہو گیا تو کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا دریافت کیا کہ حق تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ کہا کہ ہم بخش دیے گے۔ فرمایا کہ کیا رفاهی کاموں کی بدولت؟ کہا نہیں وہ سب تو اپنے اپنے رب کے پاس پہنچ گئے۔ ذہبِ ذالک کُلُّهُ إِلَى أَرْبَابِهِ اور کہا ہماری مغفرت اچھی اچھی نیتوں کی برکت سے ہوئی۔ مطلب یہ کہ رفاقتی کاموں میں عزت، شہرت اور ناموری کی نیت شامل ہونے سے وہ سب اعمال ان جھوٹے خداوں کے پاس چلے گئے، وہاں کچھ کام نہ آئے۔ اس سب سے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اچھے اعمال کرتے رہنے کے باوجود قبولیت کے لیے ڈرتے رہتے ہیں۔ ہمارے حضرت مرشد پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بُن کرتا رہے اور ڈرتا رہے۔

احقر عرض کرتا ہے کہ یہی دعا کر لیا کرے کہ یا اللہ! ہماری نیکیوں میں نہیں

کیطرف سے جو شرارت ریا وغیرہ کی ملاوٹ ہو گئی ہو آپ اپنی رحمت سے معاف فرمادیں۔ حدیث پاک میں ریا سے حفاظت کی ایک دعا بھی بتائی گئی ہے اس کو کثرت سے پڑھتا رہے، امید ہے کہ حق تعالیٰ اس بیماری سے اس دعا کی برکت سے حفاظت فرمادیں گے۔ وہ دعایہ ہے:

دعا برائے حفاظت ریا و شرک

اللَّهُمَّ إِنِّي أَغُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ
أَسْتَفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمْ.

ترجمہ: اے اللہ! میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ آپ کی عبادت میں جانتے ہوئے آپ کی عبادت میں آپ کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ کسی اور غرض کو شامل کر دوں اور میں بخشش مانگتا ہوں ان ریا کاریوں کی بھی جن کو ہم نے لاعلمی میں کر دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائیں۔

ایک تجربہ کی بات عرض کرتا ہوں جس کو تمام مشائخ نے لکھا ہے وہ یہ کہ اخلاص کی دولت صرف اللہ والوں کی صحبت اور ان کی خدمت اور ان کی جوتیاں اٹھانے سے ملتی ہے۔ اللہ والوں کی صحبت بہت ہی اہم اور ضروری عبادت ہے جس سے تمام عبادتوں میں اخلاص کی جان آ جاتی ہے۔

غذیبت کرنا

کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا یا اس کے تعلق والے مثل اولاد یا سواری یا مکان کی برائی کرتا، زبان سے یا ہاتھ کے اشارے سے مثلاً اس کے قد کا چھوٹے ہونے پر اشارہ کرنا یا آنکھ سے اس کے کانا یا نینا ہونے کی طرف اشارہ کرنا یا کمر جھکا کر اس کے کبڑے پن کو ظاہر کرنا یا لنگڑا کر چل کر اس کے لنگڑے

ہونے پر اشارہ کرنا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ اگر وہ موجود ہو تو اس کو برا اور ناگوار معلوم ہو، بس جب کسی کے بارے میں کوئی بات کرے تو یہ سوچ لے کہ وہ بھی اگر یہاں موجود ہو تو اس کو میری یہ بات اچھی لگے گی یا بُری لگے گی۔ اگر دل کہے کہ بُری لگے گی تو غیبت ہے اگر چہ یہ بات سچ ہی ہو اور اگر سچ نہ ہو تو اس کا نام بہتان لگانا ہے اور یہ بھی حرام ہے۔

بعض لوگ کسی کے مکان کا یا اس کی سواری کا یا اس کے بیوی بچوں کا ذکر اس طرح کرتے ہیں جس کا تعلق خاص ہونے سے اگر وہ موجود ہو تو اس کو برا معلوم ہو یہ بھی غیبت ہے۔

البتہ اصلاح حال کی نیت سے اولاد کی بات ماں باپ کو یا شاگرد کی بات استاد کو یا مرید کی بات پیر کو بتانا غیبت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی سے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ معلوم ہو تو اس نیت سے بتا دینا کہ وہ نقصان سے محفوظ ہو جاوے ضروری ہے اور مسلمان بھائی کی خیر خواہی میں داخل ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ غیبت زنا سے بھی اشد ہے جس کی وجہ علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ زنا حقوق الہی سے ہے، اگر اللہ تعالیٰ سے تو بہ اور معافی مانگ لے تو امید معافی کی ہے، لیکن غیبت بندوں کا حق ہے جب تک وہ بندہ نہ معاف کرے گا معاف نہ ہوگا۔

حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غیبت عداوت کا باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ہے، یعنی کبھی غیبت کرنے سے عدوات و نفرت پیدا ہوتی ہے اور کبھی عداوت پہلے ہوتی ہے پھر غیبت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پس جس کا نسب اس قدر بیہودہ ہو کہ خود ہی باپ ہو خود ہی بیٹا ہو تو کبھی لینا چاہیے کہ یہ گناہ کس قدر بدترین ہے۔ غیبت سے آج کل شاید ہی کوئی مجلس خالی ہو، عوام تو

عوام افسوس کے علماء اور خواص بھی بتلا ہیں، اس لیے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس گناہ کو ترک کرنے کا بہت اہتمام سے بیان فرمایا ہے، اگر تو فیض ہو جاوے تو جس کی غیبت کی ہے اس سے معاف کرائے، لیکن اگر اس کو ابھی غیبت کی اطلاع نہیں ہے اور معافی مانگنے سے اس اطلاع ہونے کے سبب اس کو نجی و غم پہنچنے کا اندریشہ ہو اور دل میں کدورت اور نفرت کا اندریشہ ہو تو پچی نیت سے عہد کرے کہ اب کبھی غیبت نہ کروں گا اور اس کی تعریف کیا کرے اور اس کی جن لوگوں کے درمیان غیبت کی ہے ان سے اس کی تعریف کرے اور اس کی غیبت کرنے کی اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور اس کے لیے دعا کیا کرے اور پچھہ تلاوت کر کے یا کم از کم تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر کافی دنوں تک ہر روز ان لوگوں کو ثواب بخش دیا کریں جن کی غیبت کی ہے، امید ہے کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ ان لوگوں سے اس کی یہ خطاء معاف کر دیں گے اور خود بھی وہ لوگ جب اپنے نامہ اعمال میں اس کا بخشا ہوا ثواب دیکھیں گے تو رحم آوے گا اور معاف کر دیں گے، لیکن ایصال ثواب کو غیبت کا بہانہ نہ بناؤے، اللہ تعالیٰ دلوں کی نیت کو خوب جانتے ہیں، بعض وقت مقبول بندوں کی غیبت سے خاتمہ بھی خراب ہونے کا اندریشہ ہوتا ہے اور یہ فیصلہ نہیں کیا جاسکتا کہ کون وہاں مقبول ہے بعض وقت دیکھنے میں آدمی عام معمولی سامسلمان معلوم ہوتا ہے مگر اس کے تہائی کے بعض اعمال عند اللہ اس کے درجے کو بہت بلند کر دیتے ہیں، اسی طرح اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، بہت سے پیدل قیامت کے دن سوار اور یہاں کے بعض سوار وہاں کے پیدل نظر آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکرام مسلم کی اور غیبت سے احتیاط کی تو فیض بخشیں، آمین۔

غیبت کی پیاری عموماً بدگمانی اور تکبر سے پیدا ہوتی ہے ورنہ جس کو اپنی فکر

زیادہ ہوتی ہے وہ دوسروں کے عیوب پر نظر نہیں کرتا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو اپنی بدحالی اہم معلوم ہوتی ہے وہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے بارے میں اتنا ذرا ہے کہ وہ اپنے کو مسلمانوں سے کیا کافروں سے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر سمجھتا ہے حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

ازیں بر ملائک شرف داشتند

کہ خود را به از سگ نہ پنداشتند

ترجمہ: اللہ والے اپنے کو خوفِ انعامِ محشر سے اس قدر بر سمجھتے ہیں کہ کتنے سے بھی اپنے کو بہتر نہیں سمجھتے کیونکہ جس کا خاتمہ خراب ہو گا تو اُقیٰ اس سے تو کٹے اور سور بھی اچھے ہیں کہ ان کو جہنم کی سزا نہیں ہے اور اسی عبدیت اور فناست کے سبب وہ فرشتوں سے عزت میں بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ حق تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ڈلت اور عبدیت اور فناست مطلوب ہے، وہاں زور کا کام نہیں زاری سے کام بنتا ہے اور یہی سلوک اور تصوف بلکہ انسانیت کا حاصل ہے، جس کو ایسی تواضع حاصل ہو گئی وہ ہر خلوق پر شفقت کرتا ہے اور کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا اور نہ انتقام لیتا ہے۔ علامہ ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو جذبہ انتقام سے مغلوب ہو کر انتقام لیتا ہے وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو حليم ہوتا ہے اور ایذا دینے والوں کے حق میں دعا گورہتا ہے۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب شعر ہے۔

جو روسم سے جس نے کیا دل کو پاٹ پا ش

احمد نے اس کو بھی تہہ دل سے دعا دیا

بعض لوگ اشراق اور اوایین اور ذکر و مرافقہ اور تسبیحات میں بہت آگے ہوتے

ہیں مگر کسی سے ان کو اگر اذیت پہنچ جائے یا خلاف طبع بات کسی سے پیش آجائے تو
تنبیح جیب میں رکھ کر بذریانی، بدکلامی میں بیٹلا ہو جاتے ہیں، پھر وہ نہیں دیکھتے
کہ ہم کس سے مخاطب ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں یا چھوٹے، ماں باپ ہوں یا
استاد یا شیخ سب بھول جاتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ مقولہ مشہور
ہے کہ گھری میں اولیاء گھری میں بھوت۔ اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ کا ہر وقت
جس کو دھیان رہتا ہے وہ اپنا غصہ بھول جاتا ہے اور غصہ کو اللہ تعالیٰ کی مرخصی کے
مطابق استعمال کرنا نفس کے مٹانے کے بعد ہی نصیب ہوتا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ایمان لانے سے پہلے اسلام کے خلاف
تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور فیضانِ صحبت سے پھر کفار و مشرکین
کے لیے ہو گیا پس آج بھی جن کے غصہ کی اصلاح ہو جاتی ہے وہ اپنے کو نافرمانی
سے بچانے کے لیے اپنے نفس پر غصہ کرتے ہیں اور اپنی معافی خدا تعالیٰ سے لینے
کے لیے مخلوق الہی کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں اور مخلوق خدا پر شفقت و رحمت
کرتے ہیں اور بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت اور علماء کے اکرام کی حدیث
پر اہتمام سے عمل کے لیے اپنے نفس کو مجبور کرتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ دن
مشقت کے ساتھ عمل کرنے کی برکت سے پھر طبیعت اور عادات بن جاتی ہے۔

حضرت حکیم لامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھانسی کے ملزم کو
معمولی مقدمہ والوں کی غیبت کرتے نہ دیکھا ہوگا اور کوڑھ کے مرض والے کو
زکام والے پر ہستے نہ دیکھا ہوگا پس قیامت کی ہولناک پیشی اور انجمام پر نظر
رکھنے والے دوسروں پر پھانسیں کرتے نہ غیبت کی انہیں فرصت نہ ہمت۔
احقر کا شعر ہے۔

نامناسب ہے اے دل ناداں
اک جذای ہنے زکامی پر

کذب یعنی جھوٹ بولنا

رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سچ بولنے کے پابند رہو، سچ بولنا نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور سچ اور نیکی دونوں جنت میں لے جاتے ہیں اور جھوٹ بولنے سے بچا کرو کیونکہ جھوٹ برائی کی راہ دکھاتی ہے اور جھوٹ اور برائی دونوں دوزخ میں لے جاتے ہیں۔

نحوث: بعض لوگ کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، ایسے لوگ دوسروں کو ہنسانے کے لیے اپنے لیے رونے کا انتظام کر رہے ہیں۔

گالی بکنا

بعض خاصے پڑھے لکھے حضرات اور ذکر و فقر اور عبادت کرنے والے حضرات بھی جب غصہ میں آتے ہیں تو زبان سے گالی بک جاتے ہیں۔ گالی بکنا تو شرافت طبعی اور حیاء و شرم کے بھی خلاف ہے۔ سوچنا چاہیے کہ جس منہ سے ہم تسلیاً و تلاوت کرتے ہیں، جس منہ سے درود شریف پڑھتے ہیں، جس منہ سے ہم اللہ تعالیٰ کا پاک نام لیتے ہیں اسی منہ سے ناپاک کلمات نکالتے ہیں۔ کسی نیک اور صاحب اور شریف انسان کو یہ عادت زیب نہیں دیتی۔ یہ بیماری عموماً غصہ سے مغلوب ہونے کے وقت پیدا ہوتی ہے، لہذا غصہ کا جو علاج ہے وہی اس بیماری کا علاج ہے۔ بہت سے کام لے اور اپنی ذلت سے بچاؤ اور حفاظت کو سوچے اور اللہ تعالیٰ کے سنبھال کا خیال جھائے کہ میری یہ بے ہودہ باتیں اللہ تعالیٰ بھی سن رہے ہیں۔ جس پر بے جا غصہ کرے یا بدکلامی اور گالی نکلے اس کے پاؤں پکڑ کر معانی مانگلے خواہ نفس کو لکتی ہی ذلت ہو اور سوچے کہ یہاں کی یہ تکلیف دوزخ کی تکلیف سے کم ہے اور اس قسم کی ہر غلطی پر کچھ مال بھی خیرات کرتے تاکہ نفس

کو صدمہ پہنچے اور کچھ نفل نماز کا جرمانہ بھی اپنے نفس پر لازم کرے اور اچھے اور شریف انسانوں میں رہے جو گالی نہیں بکا کرتے اور گڑگڑا کر اصلاح کی دعا بھی کرتا رہے ان شاء اللہ تعالیٰ ہمت اور دعا کی برکت سے یہ بیماری چلی جاوے گی۔

خشک مزاجی اور روکھاپن

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتے ہیں اور نرمی پر ایسی نعمتیں دیتے ہیں کہ سخت مزاجی پر نہیں دیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہا۔

لوگوں کی خطاوں کو معاف نہ کرنا

یہ بھی خشک مزاجی اور دل کی سختی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی مسلمان کے سامنے غذر کرے اور وہ اس کے غذر کو قبول نہ کرے تو ایسا شخص میرے پاس حوضِ کوثر پر نہ آوے گا، یعنی اگر تمہارا قصور کرے اور پھر وہ معاف کراوے تو معاف کر دینا چاہیے۔

بولنا چھوڑنا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان بھائی کے لیے حلال نہیں کروہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے جو قین دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے اور اسی حالت میں مر جائے وہ دوزخ میں جائے گا۔ مطلب یہ کہ جب کسی دنیا وی وجہ سے بولنا چھوڑ دے۔

وعدہ اور امانت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں امانت نہیں اس میں ایمان

نہیں اور جس کو عہد کا خیال نہیں اس میں دین نہیں۔

یہ اہم اہم اخلاقی رذیلہ بیان کیے گئے ہیں۔ ان باتوں سے احتیاط کی توفیق سے ان شاء اللہ سارے ہی رذائل اور برائیوں کی اصلاح ہو جائے گی۔

شیخ سے متعلق حضرت حکیم الامت تھانوی

رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد

اگر ایک شیخ کی خدمت میں خوش اعتمادی سے کافی مدت تک رہا، مگر اس کی محبت سے کچھ اثر نہ محسوس کیا تو دوسری جگہ اپنا مقصد تلاش کرے کیونکہ مقصود اصلی حق تعالیٰ کی ذات ہے نہ کہ پیر لیکن شیخ اول سے بد اعتماد نہ ہو، ممکن ہے کہ وہ کامل اور مکمل ہو گر اس کا حصہ یہاں مقدار نہ تھا۔ اسی طرح اگر شیخ کا انتقال قبل حصول مقصود ہو گیا یا شیخ مریدوں کو وقت نہیں دیتا تب بھی دوسری جگہ تلاش کرے، یہ خیال نہ کرے کہ دوسرے شیخ کی کیا ضرورت ہے شیخ کی قبر سے فیض حاصل ہو جاوے گا، کیونکہ قبر سے تعلیم اور اصلاح کا فیض نہیں ہوتا صرف صاحب نسبت کو احوال کی ترقی ہوتی ہے۔

ضروری تنبیہ: لیکن محض ہوس اور طمع کے سبب یا بدگمانی کے سبب یا شیخی اور ڈاٹ کے سبب شیخ کو چھوڑنا سخت محرومی ہے اور اس سے قطع نسبت کا خطرہ ہوتا ہے اور ایسا آدمی ہر جائی مشہور ہو جاتا ہے اور طریق کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فہم سلیم اور تواضع و عبیدیت عطا فرمائیں، آمین۔

شیخ چونکہ خلیفہ کامل اور نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے لہذا اس کی محبت اور ادب کا بہت اہتمام سے لحاظ رکھئے اور یہ گمان رکھئے کہ میرے حق میں میرے مرشد سے بہتر کوئی اور نفع پہنچانے والا نہیں ہے۔ یہ ارشاد شیخ العرب والجم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کا ہے۔

آخر میں حاصل طریق عرض کرتا ہوں کہ جس نے اپنے نفس کو نہ مٹایا اس نے پچھہ میں حاصل کیا، اپنے کو مٹا کر خاکساری اور توضیح سے رہے اسی سے دونوں جہان میں عزت ملتی ہے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جاہ اور عزت والے تھے پھر بھی اپنے شیخ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرتے ہیں۔

نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں
مٹا دیجیے مٹا دیجیے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں

اللہ تعالیٰ اس رسالت کو اپنے فضل سے قبول و تنافع فرمائیں، آمین۔ قارئین کرام سے دعا کی درخواست ہے کہ حق تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم کو بھی اور سب قارئین کو بھی توفیق عمل بخشیں، آمین۔

ربنا تقبل منا افلاک انت السميع العليم بحق رحمتك
ورحمة للعلمين صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
رائم الحروف

محمد اختر عفاف اللہ تعالیٰ عنہ

۶ روزا الجبہ ۱۳۹۹ھ



قطا کے بعد ہوئی سرد نفس کی دُنیا
نہ مُحسن و عشق کے بھگڑے نہ مال و دولت کے

* غافلہ ستر اور لاماشا کیم محمد اختر عفاف اللہ تعالیٰ عنہ *

مبارک مجھ می پر رانیاں ہیں

زیاد سے قولے دوست شبازیاں ہیں
باطن مجر آہ خفا شیاں ہیں

حکارت سے مت دیکھ ان عاصیوں کو
کہ توہہ کی برکت سے درباریاں ہیں










جو پڑھیز کرتے نہیں معصیت سے
انہیں راہ میں سخت دشواریاں ہیں

گناہوں کے اس باب سے ذور ہو گئے
نومنزل میں ہر وقت آسانیاں ہیں

دوائے دل سا کاف عشق حق ہے
دلوں میں بہت گرچہ بیماریاں ہیں

رہ حق میں ہر نسمے کیوں بے گریاں
رہ عشق میں کب تن آسانیاں ہیں

ہماری دیگر مطبوعات



KUTUB KHANA MAZHARI

Gulshan-e-Iqbal Block-2,
P. O. Box No. 11182, Karachi, Pakistan.
Tel : (92-21) 4992176, 4818112
Fax : (92-21) 4967955

Website : www.kutubkhanamazhari.com.pk